

مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب

۸
درس

ایمان اور اس کے ثمرات

سورۃ التغابن کی روشنی میں

ڈاکٹر اسرار احمد

مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

اس کتابچے کی اشاعت و طباعت کی ہر صفحہ کو کھلی اجازت ہے

نام کتابچہ ————— ایمان اور اس کے شرات (درس نمبر 8)
طبع اول (دسمبر 1997ء)
2200 —————
طبع دوم (ستمبر 2003ء)
2200 —————
طبع سوم (اگست 2005ء)
2200 —————
ناشر ————— ناظم نشر و اشاعت، مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور
مقام اشاعت ————— کے ماؤں ٹاؤن لاہور
فون: 03-5869501
طبع ————— شرکت پرنگ پرنس لاہور
قیمت ————— 20 روپے

ایمان اور اس کے ثمرات و مضمرات

سورۃ التغابن کی روشنی میں

آج ہم اللہ کے نام سے مطالعہ قرآن حکیم کے اس منتخب نصاب کے آٹھویں درس کا آغاز کرہے ہیں جو ان صفات میں سلسلہ دار زیر اشاعت ہے۔ جیسا کہ اس سے قبل وضاحت کی جا چکی ہے کہ اس منتخب نصاب کا حصہ دوم مباحثہ ایمان پر مشتمل ہے اور اس حصہ دوم کا یہ چوتھا درس ہے جو سورۃ التغابن پر مشتمل ہے جو مسح کے اخائیسویں پارے میں ہے اور جو دور کو عومن اور اخمارہ آجھوں پر مشتمل ہے۔ سورۃ الحصر کے بعد یہ پہلی مکمل سورت ہے جو اس منتخب نصاب میں شامل ہے۔

سورت کے مضمایں کا اجمالی تجزیہ

میرے مطالعے اور غور و فکر کی حد تک قرآن مجید کی جھوٹی سورتوں میں ایمان کے موضوع پر جامع ترین سورت سورۃ التغابن ہے۔ یہاں اس بات کو دوبارہ ذہن میں مستخر کر لیجئے کہ ان مباحثہ میں ایمان سے مراد قانونی اور لفظی ایمان نہیں ہے جس کی بنا پر ہم اس دنیا میں ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں بلکہ ایمان حقیقی ہے جو قلبی یقین سے عبارت ہے اور جیسے کہ ہم سورۃ النور کی آیات نور میں دیکھے چکے ہیں وہ ایمان ایک نور ہے جس سے انسان کا باطن روشن اور منور ہو جاتا ہے اور جس کا اصل محل و مقام قلب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسح میں سورۃ التغابن سے متنسلہ مکمل سورۃ النافعون واقع ہے اور منافقین کے ہارے میں یہ بات سب جانتے ہیں کہ وہ بھی قانوناً مسلمان شمار ہوتے ہیں اور دنیا میں ان کے ساتھ پاکیل مسلمانوں کا ساسلوک ہوتا ہے اگرچہ وہ ایمان حقیقی سے محروم

ہوتے تھے۔ گویا حقیقت کا فرستھے۔ اس طرح قرآن مجید میں سورۃ النافعون کے فوراً بعد سورۃ التحابن کو لاکر گویا تصویر کے دونوں رخون کو سمجھا کر دیا گیا، یا یوں کہ سمجھتے کہ ”تعرف“ الاشیاء باضدادِ اہا“ کے اصول کے مطابق ”کفرِ حقیقت“ کے بالقابل ”ایمانِ حقیق“ کا آئینہ رکھ دیا گیا۔

بیسے کہ پلے عرض کیا جا چکا ہے سورۃ التحابن کی انحرافات آیات ہیں جو دور کو عوں میں منقسم ہیں۔ یہ بڑی پیاری اور دلکش تقسیم ہے۔ پلے روکوں کی دس آیات میں سے پلے سات آیات میں ایمانیاتِ ملائش کا ذکر ہے۔ یعنی ایمان بالله اور مقاماتِ باری تعالیٰ ”ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرہ یا ایمان بالمعاد۔ پھر اگلی تین آیات میں ایمان کی نمائیت پر زور دعوت ہے کہ یہ واقعی حقائق ہیں، ان کو قبول کرو، ان کو تسلیم کرو، انہیں حرزِ جاہ بناؤ اور ان پر یقین سے اپنے باطن کو منور کرو۔

دوسرے روکوں کی کل آٹھ آیات ہیں۔ ان میں بھی یہی تقسیم ہے کہ پہلی پانچ آیات میں ایمان کے ثمرات اور ایمان کے نتیجے میں انسان کے غرور نظر اور اس کی شخصیت میں جو تبدیلیاں رونما ہوئی چاہئیں، ان کا بیان ہے۔ یعنی (۱) تسلیم و رضا (۲) اطاعت و انتیاد (۳) توکل و اعتماد (۴) علاقتی و دنیوی کی فطری محبت کے پردے میں انسان کے دین و ایمان اور خاتم و عاقبت کے لئے جو بالقوہ خطرہ مضر ہے، اس سے متنبه اور چوکس و چوکنار ہتنا اور (۵) مال اور اولاد کی فتنہ انگیزی سے ہوشیار و پا خبر رہنا۔ اور آخری تین آیات میں ایمان کے ان تقاضوں کو پورا کرنے کی نمائیت زور دار اور موثر تر غیب و تشویق ہے، اور ان میں تقویٰ، سمع و طاعت اور اخلاق فی سیل اللہ کی اہمیت پر بست زور دیا گیا ہے۔ اس طرح یہ سورۃ مبارکہ واضح طور پر چار حصوں میں منقسم ہے۔

ابتدائی چار آیات:

اللہ تعالیٰ کی توحید اور صفاتِ کمال کا ذکر

اب آئیے اس سورۃ مبارکہ کے پلے روکوں کے پلے حصے کی جانب جو چار آیات پر مشتمل ہے۔ ان آیات پر کسی تفصیلی ملکوتو سے قبل مناسب ہو گا کہ ان کا ایک روای ترجمہ

ذہن نشین کر لیا جائے۔

۴۰۵-۱-۲۳) ﴿يَسِّعُ لِلْهُمَّ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ هَلْ أَنْتُكُ
وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۝ هُوَ الَّذِي
خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ۝ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۝ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِيقَةِ
وَصَوَرَكُمْ فَأَخْسَنَ صُورَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۝ يَعْلَمُ مَا
فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُبَطِّلُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ
وَاللَّهُ عَلَيْهِ يَدِهِ الصَّدُورٌ۝﴾ (التغابن : ۱-۲-۳)

"اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں
ہے۔ (واعظہ یہ ہے کہ کل کائنات کی) بادشاہی بھی اسی کی ہے اور کل شہرو پاس
اور تعریف دشاء کا مستحق حقیقی بھی صرف وہی ہے۔ مزید برآں وہ ہر چیز پر قادر
ہے۔ وہی جس نے تم سب کو تخلیق فرمایا تھا تم سے کچھ (اس کا) انکار کرنے والے
ہیں اور کچھ (اس کو) ماننے والے ہیں، اور جو کچھ تم (اس دنیا میں) کر رہے ہو، اللہ
اسے دیکھ رہا ہے۔ اسی نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا اور تمہاری
فتشہ کشی کی اور بہت ہی اچھی نشانہ کشی کی اور صورت گری فرمائی اور (جسیں) اسی
کی طرف لوٹا ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور وہ جانتا ہے کہ
جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم پھیپاتے ہو، اور اللہ سینوں میں پوشیدہ رازوں
کا بھی جانے والا ہے۔"

جیسا کہ ترجیح سے ظاہر ہے، ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی
صفاتِ کمال کا بیان بڑے پر جلال انداز میں ہوا ہے۔ اس موقع پر یہ اصولی بات ذہن نشین
کر لئی چاہئے کہ ایمان اصلًا ایمان باللہ کا نام ہے۔ اصولی علمی اور نظری اعتبار سے ایمان
باللہ ہی ایمان کی اصل جزا اور بنیاد ہے۔ ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرت دونوں اصلًا
ای کی فروع ہیں۔ چنانچہ ایمان باللوحی، ایمان باشہوت، ایمان بالكتب یا فی الجملہ ایمان
بالرسالت اصل میں اللہ تعالیٰ کی صفت ہے ایمان کا مظراً تام ہے۔ اسی طرح بعث بعد الموت،
حشو نشر، حساب و کتاب، جزا و سزا اور جنت و دوزخ کی تصدیق گویا فی الجملہ ایمان بالآخرت

یا ایمان بالاعدالله تعالیٰ کی صفتی مدل اور اس کے اسم "کرامی" "الحسیب" کاظمی ہے۔ گواہ اللہ حساب لینے والا ہے اور حساب کے مطابق جزا و سزا دینے والا ہے۔ اور اس کی ای شان کا کامل ظہور آخرت میں ہو گا۔ پس معلوم ہوا کہ اصل ایمان "ایمان بالله" ہے۔ یہ وجہ ہے کہ سورۃ النجاشیہ کے پہلے رکوع میں ایمان بالله یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید اور صفاتی کمال کا بیان چار آیات میں ہوا ہے جب کہ ایمان بالرسالت اور ایمان بالاعداد و نعم کو تین آیات میں سودا گیا ہے۔

ان اہم ایسی چار آیات میں ایمان بالله کا بیان نہایت مجزئ نما اسلوب میں غایت درجہ اختصار لیکن حد درجہ جامعیت کے ساتھ ہوا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے :

هُبَيْتَبِعَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۝

"اللہ کی تبعیج کرتی ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے۔"

"تبع" کا معنی و مفہوم

یہاں پہلے لفظ تبع پر غور کر لیجئے۔ اگرچہ فوری طور پر اس کے جو عام معنی ذہن میں آتے ہیں وہ یہ اقرار ہے کہ اللہ پاک ہے۔ لیکن اس کا حقیقی مضمون کیا ہے؟ اسے جانا ضروری ہے۔ "سبح بسبح" مربی میں کسی چیز کے تحریر کو کہتے ہیں "خواہ وہ چیز پاکی کی سطح پر تحریر ہو، خواہ فضا یا خلامیں اپنے مدار پر اپنی سطح پر تحریر کرنے کو کہتے ہوئے حرکت کر رہی ہو۔ چنانچہ آپ کو قرآن مجید میں یہ الفاظ ایک سے زائد مقامات پر ملیں گے کہ : ﴿كُلٌ﴾ رفی فَلَكِ يَسْبَحُونَ ۝ "یہ تمام (اجرام سمادیہ خلامیں) اپنے اپنے مدار میں تحریر ہے ہیں۔ یہ فعل لازم ہے، اس سے فعل متعدد بنے گا "تیرانا" یا کسی شے کو اس کی سطح پر برقرار رکنا۔ یہ ہے سبھ بسبح۔ اس کا مصدر "تابع" ہے۔ گواہ لفظ تبع کے لغوی معنی ہیں "کسی کو اس کی اصل سطح پر برقرار رکنا۔" چنانچہ اللہ کی تبع یہ ہے کہ اس کا جو مقام بلند ہے، اس کی جو اعلیٰ وارفع شان ہے، اسے اس پر برقرار رکھا جائے اور اس کی ذاتِ اقدس صفاتیں اکمل اور شانِ ارفع کے ساتھ کوئی ایسا تصور شامل نہ کیا جائے جو اس

کے شایان شان نہ ہو۔ گویا کسی بھی درجے کے ضعف، مجرر، لقص، عیب یا محدودیت کا کوئی بھی تصور اس کی ذات و صفات کے ساتھ شامل کرنے کے معنی یہ ہیں کہ انسان اسے اس کے مقام رفع سے نیچے کرا رہا ہے۔ معاذ اللہ! — پس تبع باری تعالیٰ کامنہوم یہ ہو گا کہ اس بات کا اقرار و اعتراف کیا جائے کہ اللہ ہر عیب سے ہر لقص سے ہر ضعف سے ہر احتیاج سے منزہ و مادراء اور اعلیٰ وارفع ہے گویا فی الجملہ "اللہ پاک ہے"۔ واضح رہے کہ یہ معرفتِ الہی کا سلسلی پہلو ہے کہ ہم نے یہ جان لیا کہ اللہ میں کوئی لقص نہیں کوئی عیب نہیں اسے کوئی احتیاج نہیں۔ وہ ان سب سے منزہ اور پاک ہے۔ معرفتِ الہی کے ثابت پہلو کا بیان "وَلَهُ الْحَمْدُ" کے الفاظ میں آئے گا جو آگے آرہے ہیں ا।

اب قابل غور امریہ ہے کہ کائنات کی ہر شے کس معنی و مضموم میں اللہ کی تبع کر رہی ہے ا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کوئی زبان دی ہو۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ پرندوں کی بھی زبان ہے اور ان کی اپنی بولیاں ہیں۔ اسی طرح شجر و مجرمین بھی حس موجود ہے اور کوئی محظ نہیں کہ وہ بھی آپس میں مبادلہ احساس کرتے ہوں۔ حیوٹی جیسی حیرت خلوق کی حنفتوں کا ذکر سورۃ الشمل میں موجود ہے : ﴿فَآتَتْ نَنْكَةً بِأَنْبَأَهَا الشَّمْلُ أَدْخَلُوا مَسَارِكَنْكَمْ﴾ "ملکہ حیوٹی نے کما کہ اے حیوٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔" لذایہ بات بعد از قیاس نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو کوئی زبان عطا کی ہو، کیونکہ قرآن مجید میں ایک مقام پر یہ الفاظ بھی وارد ہوئے ہیں : ﴿أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ (قیامت میں انسان کے اعضاء کیسی گے کہ) اس اللہ نے ہمیں بھی گویا تی عطا فرمادی ہے جس نے ہر شے کو گویا بخشی۔ یعنی میدان حشر میں انسان کے اعضاء جب اس کے خلاف گواہی دیں گے تو انسان پکارا شے گا کہ تم ہمارے جسم کا حصہ ہوتے ہوئے ہمارے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو؟ تو وہ جواب میں مذکورہ بالا بات کیسی گے۔ لیکن ظاہر ہات ہے کہ کائنات کی ہر شے جو تبع لسانی کر رہی ہے وہ ہمارے فہم سے اور اراء ہے۔ چنانچہ سورۃ نبی اسرائیل میں ارشاد فرمایا :

﴿تَسْبِيحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ شَيْءٍ شَيْءٌ إِلَّا مُسَبِّبِحٌ بِحَمْدِهِ وَلِكُنْ لَا تَفْقُهُونَ﴾

تَسْبِيْحَهُمْ ﴿٣٣﴾ (آیت ۳۳)

”اس (اللہ) کی تسبیح تو ساتوں آسمان اور زمین اور وہ ساری جنگیں کر رہی ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں۔ کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اس کی تحدید کے ساتھ تسبیح نہ کر رہی ہو لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔“

ابتدہ اس کا نتیجہ اور آفاقی تسبیح کا ایک پہلو ایسا بھی ہے جو ہماری سمجھ میں آتا ہے جسے تسبیح حالی قرار دینا مناسب ہو گا۔ یعنی یہ کہ ہر شے اپنے وجود سے اعلان کر رہی ہے ”مگر یا زبانِ حال سے اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ میرا خالق، میرا مالک، میرا صاحب، میرا مصور، میرا موجود“ اور میرا مرد ایک الگی ہستی کا مال ہے جس کے دل علم میں کوئی کی ہے نہ قدرت میں کوئی کی ہے اور نہ حکمت میں کوئی کی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اگر کوئی تصویر نہایت اعلیٰ ہے، فتنی مصوری کا شہ پارہ ہے تو در حقیقت وہ تصویر اپنے وجود سے اپنے مصور کے کمال فن کو ظاہر کرتی ہے۔ تخلیق اگر کمال ہے تو اس سے اس کے خالق کا کمال ظاہر ہو رہا ہے۔ لہذا یہ ”کل کائنات“ یہ جمل مصنوعات اور یہ تمام تخلیقات اللہ تعالیٰ کی صفت تخلیق کے حد درجہ اکمل و اتم اور صفت ”تصویر“ یعنی سورت گردی کے نہایت حسین و جیل مظاہر ہیں۔ سورۃ الحشر کی آخری تین آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے نولہ (۱۶) اسماے حسنی آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اسماے حسنی کا ایسا حسین اور اتنا عظیم مجددت کی اور مقام پر نہیں آیا ہے۔ ان سولہ اسماے حسنی میں سے تین ”الخالق“، ”الباری“ اور ”المصور“ ہیں۔ یعنی اللہ تخلیق کی مخصوصی بندی فرمائے والا ہے، اس کو خارج میں ظاہر فرمائے والا ہے، اور اس کی آخری سورت گردی اور نتشکری کرنے والا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ کل کائنات اور کل موجودات کا ”الخالق“، ”الباری“ اور ”المصور“ اللہ سبحانہ کی ذاتِ القدس ہے۔ اور یہ تخلیق و تصویر کامل ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الملک میں چیلنج کے انداز میں ارشاد فرمایا:

۴۰۰ مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفْوِيتٍ، فَأَرْجِعِ الْبَصَرَ
هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورِيٍّ مُّمَّا أَرْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتِينَ يَنْقَلِبُ
إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴿٤٠﴾ (آیت ۴۰، ۳)

"تم رہمن کی تحقیق میں کوئی نقص خلاش نہ کر سکو گے۔ زر اچاروں طرف نظر دوڑاؤ" کیا تمیں کہیں کوئی رخص نظر آتا ہے؟ زر اور بارہ دیکھو اور بار بار دیکھو، لیکن تمہاری نہایں تھک ہار کروٹ آئیں گی (اور تمہاری اس تحقیق میں کوئی نقص دعیب نہ نکال سکو گے)۔"

تو سوچ کر عیب و نقص سے میرا و منزہ کون ہے؟ وہ ہستی کہ جس نے ان سب کی تحقیق فرمائی اور جو اس پوری کائنات کی خالق و مصور بھی ہے اور حافظ و مدیر بھی الفرض یہ ہیں معانی و مقامیں "بِسَبِيعٍ لِّلْهٗ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ" کے

"لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ" کا مفہوم

اسی آیت مبارکہ میں آگے ارشاد فرمایا ہے "لَهُ الْمُلْكُ" "بادشاہی اسی کی ہے"۔ یعنی اس پوری کائنات کا حقیقی حکمران وہی ہے۔ بقول علام اقبال مرحوم۔
سروری زیبا فقط اُس ذات بے ہستا کو ہے
حکران ہے اُک وہی باقی ہمان آزری ا।

گویا وہ قانوناً (de jure) بھی اس پوری کائنات کا بلا شرکت غیرے بادشاہ ہے۔ یعنی حکمرانی کا اتحاقاً بھی صرف اسی کو حاصل ہے اور واقعاً (de facto) بھی بادشاہی اسی کی ہے۔ یعنی فی الواقع بھی بادشاہ حقیقی اور حاکم مطلق صرف اسی کی ذات ہے۔ گویا "لَهُ" میں حرف جار "لَام" لام اتحاق کے معنی بھی دے رہا ہے اور لام تیک کے بھی۔ اگر صحیح نج پر غور کیا جائے تو اس لازمی تیجے تک پہنچے بغیر چارہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن حکومات کو کچھ اختیار بخشنا ہے، جیسے جن و انس، ان کا اپنا پر اوجود بھی اللہ کے قانون میں جکڑ ہوا ہے۔ چنانچہ ہم اس بات پر بھی قادر نہیں ہیں کہ اپنے جسم کے کسی حصے پر بالوں کی روئیدگی کو روک سکیں۔ ہمیں یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ جب چاہیں اپنے قلب کی حرکت کو روک دیں اور جب چاہیں اسے روائی کرو دیں۔ اسی طرح ہم آنکھ سے سننے کا کام نہیں لے سکتے اور کان سے دیکھنے کا کام نہیں سطح سکتے۔ معلوم ہوا کہ ہمارا اپنا وجود بھی ہمارے حکم کے تابع نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے قوانین مکونی و طبی میں جکڑا ہوا ہے۔ گویا وہ بھی اسی بادشاہ حقیقی کا حکم مان رہا ہے، جس کے لئے نہایت ایجاد و اعجاز کے ساتھ فرمایا گیا ہے "لَهُ

الْمُلْكُ "یعنی "حقیقی ہادشاہی صرف اسی کی ہے"۔ یہ دو سری بات ہے کہ اپنے وجود کے ایک نایت مدد و اور حیرت سے حصے میں انتیار اور ارادے کی اس آزادی پر جو تمام تر اللہ ہی کی عطا کردہ ہے، ہم اس نے از خود رفتہ ہو جائیں کہ اردو ضرب اللہ کے مطابق ہلدی کی گانچھ پا کر پسارتی بن بیٹھیں اور اپنے آپ کو سلیمانی خود فشار سکھنے لیں گے۔

آگے چلتے۔ ارشاد فرمایا ﴿وَلَهُ الْحَمْدُ﴾ "اور کل جد بھی اسی کے لئے ہے"۔ لفظ "حمد" (جس کی تصریح اس سے قبل سورۃ الفاتحہ کے درس میں بیان ہو چکی ہے) جمود ہے شکر و شاء دلوں کا۔ گویا کل شکر اسی کے لئے ہے اور کل شاء بھی اسی کے لئے ہے۔ اس لئے کہ اس پورے سلسلہ کون و مکان میں جہاں کہیں کوئی خیر و خوبی، کوئی حسن و جمال اور کوئی مظہر کمال نظر آرہا ہے اس کا سرچشمہ و منع اللہ تعالیٰ ہی کی ذات و الاوصافات ہے۔ لذ ا تعریف کا حقیقی مستوجب و سزاوار اور بالکل و سختی بھی صرف وہی ہے۔ اسی طرح چونکہ ہمیں جو کچھ بھی حاصل ہو رہا ہے اور ہماری جو ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے وہ چاہے بست ہی طویل سلسلہ اسہاب کے تعلق و توسط سے ہو رہی ہو، لیکن اصل مسبب الاصہاب تو بہر حال اللہ تعالیٰ ہی ہے، لذ ا شکر کا حقیقی سختی بھی صرف اسی کی ذات ہے۔

اللہ کی قدرت کاملہ کا تصور

آگے ارشاد فرمایا : ﴿وَمَوْعِدُنَا لَمْ يُؤْخَذُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدْ بَرُّ50﴾ "اور وہ ہر چیز پر قادر ہے"۔ گویا اس کے تبصہ قدرت اور انتیار و اقتدار سے کوئی چیز باہر نہیں ہے ایساں پہلی آیت شتم ہوئی۔ یاد ہو گا کہ اس سے قبل ایک درس میں مرض کیا جا چکا ہے کہ صرفتِ الہی کے ہمن میں جہاں تک ذات ہماری تعالیٰ کا تعلق ہے تو وہ ہمارے فہم و اور اک ہی نہیں، ہماری قوت و میلہ سے بھی وراء الوراء ثم وراء الوراء ہے۔ چنانچہ ہمارا اللہ تعالیٰ کو جانا اور پہچانا کل کا کل اس کی صفات کے حوالے سے ہے۔ اور ان کے ہمن میں بھی فہم و شعور کا دائرہ بست ہی مدد و ہے۔ یعنی ہم یہ تو جانتے ہیں کہ اللہ سمجھ ہے، بصیر ہے اور کلام فرماتا ہے، لیکن یہ نہیں جان سکتے کہ وہ کیسے سنا ہے، کیسے دیکھتا ہے اور کیسے کلام کرتا ہے۔ اسی طرح ہم یہ تو جانتے ہیں کہ وہ طیم ہے، تدبیر ہے اور حکیم ہے، لیکن اس کا کوئی تصور تک

نہیں کر سکتے کہ وہ کتنا علیم ہے، کتنا ذیر ہے اور کس قدر حکیم ہے۔ گویا صفاتِ ہماری تعالیٰ کے یہ مختلف پہلو بھی ہمارے ذہن و شعور اور فہم و اور اک سے مادراء ہیں، اور ہمارے ذہن کے چھوٹے سے سانچے میں جو نمایتِ مدد و ہبے "اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفاتِ ملطّة اپنی پوری شان کے ساتھ سماں ہی نہیں سئیں۔ اللہ ہمارے لئے واحد پناہ گاہ ایک خلا "گل" ہے۔ جیسے "مُؤْعَلَى الْجُلُلِ شَيْءٌ وَقَدْ يَرُونَ" (وہ ہر جنہر قادر ہے) جس پر یہ پہلی آیتِ مبارکہ گھست ہو رہی ہے "اوْرَ وَمُؤْبِكُلِ شَيْءٌ وَعَلِيهِمْ" (اور وہ ہر جنہیں کامل رکھتا ہے) جس پر اس سورہ مبارکہ کا پہلا رکوع گھست ہوتا ہے ا — ہر صاحبِ ذوقِ اندازہ کر سکتا ہے کہ ان دونوں مقامات پر اصل زورِ لکڑا "جُل" پر ہے ا

ایمان و کفر کی بحث

دوسری آیت کے آغاز میں فرمایا : ﴿مُوَالِّذِي خَلَقَكُمْ﴾ "وہ نہ آہی ہے جس نے تم سب کو پیدا فرمایا۔" گویا پہلی آیت ایک پُر جلال تمجید کی حیثیت رکھتی ہے جس کے بعد ایمان اور کفر کی بحث شروع ہو رہی ہے جس کے لئے نمایتِ فضیح و طیخ اور حد و رج طیف پر ایمان اختیار فرمایا کہ ذرا غور کرو کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات و الامانہ ہے جو تم سب کی خالق ہے۔ گوروں کو بھی اسی نے پیدا کیا اور کالوں کو بھی، مشرق کے رہنے والوں کو بھی اور مغرب کے رہنے والوں کو بھی — تو پھر کتنی حیرت کی بات ہے کہ :

﴿فَيَنْكُمْ كَافِرُهُ وَمُنْكِمْ شَوَّمُونَ﴾ "تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن ہے" حالانکہ اس نے ارادے اور اختیار کی جو تھوڑی سی آزادی تھیں عطا کی فرمائی ہے وہ اصلاً احتلاء و آزمائش اور امتحان کے لئے ہے۔ جیسا کہ سورۃ الملک میں ارشاد ہوا : ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيْشُكُمْ أَحَسَّ إِعْمَالًا﴾ "اللہ ہی ہے جس نے موت و حیات کے سلسلے کو پیدا فرمایا تاکہ تم لوگوں کو آزمائے کہ کون ہے تم میں سے بہتر عمل کرنے والا۔" یہی بات سورۃ الدھر میں اس اسلوب سے ارشاد ہوئی : ﴿إِنَّا هَدَنَا إِلَى السَّبِيلِ إِمَّا شَاكِرٌ وَإِمَّا كَفُورًا﴾ "ہم نے اس (انسان) کو (ہدایت کا) راستہ و کھادیا، اب وہ (عنار ہے) خواہ فکر گزار بندہ بنئے، خواہ ناشکرا

اور انکار کرنے والا بن جائے ۱۔ اسی اختیار کا نتیجہ اس طرح ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ اس کا کفر کرنے والے ہیں اور کچھ اس کو مانتے والے ہیں، لیکن ظاہریات ہے کہ انسان کا روایتی اور اس کی روشنی بے نتیجہ نہیں رہے گی، بلکہ اس کا جھلایا بر انتیجہ نکل کر رہے گا۔ لہذا اس آیت کے اختتام پر انسان کو مطلع اور خبردار کر دیا گیا کہ : ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَنْ يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ "اور جو کچھ تم کر رہے ہو، اسے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے" — اس ارشاد میں بیک وقت ایک دھمکی بھی مشرب ہے اور ایک بشارت بھی۔ یعنی جو لوگ اس کے منکر، بافی اور سرکش ہوں گے ہمیبا شکرے ہوں گے، اور جو اس کے ساتھ شرک کریں گے، ان کو وہ سزا دے گا۔ یہ ان الفاظ مبارک کا دھمکی والا پہلو ہے، اور بشارت والا پہلو یہ ہے کہ جو اس کے شکرگزار ہوں گے، اس کے مطبع و فرماں بردار ہوں گے اور اس کی معرفت سے اپنے قلوب واژہ ان کو متور کریں گے، ان کو وہ انعام و اکرام سے نوازے گا۔ اس لئے کہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور سب کی روشنی سے آگاہ ہے ۱

کائنات اور انسان کی با مقصد تخلیق

اگلی آیت میں ارشاد فرمایا : ﴿خَلَقَ اللَّهُ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِالْحَقِيقَ﴾ یعنی اللہ نے یہ آسمان اور یہ زمین جو پیدا فرمائے ہیں تو بیکار و بے مقصد اور بلا غرض و غایت پیدا نہیں فرمائے بلکہ "یا الحق" پیدا فرمائے ہیں۔ یعنی ایک مقصد کے ساتھ ان کی تخلیق فرمائی ہے۔ "حق" عربی زبان کا بڑا و سیع المفہوم لفظ ہے۔ اس کا اصل مفہوم ہے "وہ چیز جو فی الواقع موجود ہو"۔ باطل کا لفظ حق کی ضد ہے، پتنانچہ باطل اصلاح اس کو کہتے ہیں کہ جو نظر تو آئے، محسوس و مشہود تو ہو، لیکن حقیقت موجود نہ ہو، جیسے سراب۔ لیکن حق کے اس مفہوم اصلی پر چند مفہومیں زائد ہیں۔ مثلاً حق ہر وہ چیز ہے جو عقلًا مسلم ہو، اس کے مقابلہ میں باطل وہ چیز ہے جو عقلًا مسلم نہ ہو۔ اسی طرح حق ہر وہ شے ہے جو اخلاقاً ثابت ہو اور اس کے مقابلہ میں باطل وہ ہے جو اخلاقاً ثابت نہ ہو۔ مزید بر آں حق ہر وہ چیز ہے جو با مقصد ہو، جس کے پیچے کوئی حکمت کا رفرما ہو اور اس کے مقابلہ میں باطل و عبث ہر وہ فعل ہے جو بے مقصد ہو اور جس کی پشت پر کوئی حکمت نہ ہو۔ اس آیت میں لفظ حق اسی آخری مفہوم میں

استعمال ہوا ہے اور کلام کا حاصل اور دعا یہ ہے کہ اللہ نے یہ کائنات بے مقصود اور بغیر حکمت کے گویا باطل اور عبیث نہیں بنائی۔ یہ مضمون سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں بھی بایں الفاظ آچکا ہے : ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا﴾ "اے رب ہمارے تو نے یہ سب کچھ باطل و بے مقصود نہیں بنایا" ۱

کائنات کی عمومی تخلیق کے ذکر کے بعد خاص طور پر تخلیق انسانی کا ذکر فرمایا گیا : ﴿وَصَوَرَ كُمْ فَأَخْسَنَ صَوْرَ كُمْ﴾ "اور (اس نے) تمہاری نقشہ کشی کی اور بتی اچھی نقشہ کشی اور صورت گری فرمائی"۔ یعنی ذرا اپنی عظمت کو پہچانو، تم اس کل سلسلہ تخلیق کا نقطہ عروج ہو، اللہ نے تمہیں اشرف الملوکات بنایا اور تمہیں کیسی کیسی عمدہ و اعلیٰ اور ظاہری و باطنی استعدادات سے نوازا۔ اس نے تمہاری تخلیق "فِي أَحْسَنِ تَفْوِيمٍ" یعنی "نہایت اعلیٰ اور بہتر انداز" پر کی۔ پھر تمہاری صورت گرفتی کی اور تک نقشہ عطا فرمایا اور کیا یہی عمدہ تکل و صورت سے نوازا۔ تو کیا یہ سب کچھ بے کار اور بے مقصود ہے اور "نشستند" گفتند و برخاستند" کے ماندہ تمہارا اس دنیا میں پیدا ہونا، حیوانوں کی طرح پیٹ اور جس کے قابضے پورے کرتے رہنا اور مر جانا، بس یہی تمہاری کل حقیقت ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ : ﴿وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾ "اور اسی کی طرف (سب کو) لوٹا ہے"۔ اور ظاہر ہے کہ لوٹا جواب دی کے لئے ہو گا۔ وہاں تمہارا احکامہ ہو گا۔ تم محض حیوان نہیں ہو، تمہارا امرتبہ و مقام بنت بلند ہے، تم اشرف الملوکات ہو۔ لذدا طر

"جن کے ربے ہیں سو ایں کی سو مشکل ہے" ۲

کے صدقان تمہاری ذمہ داری بھی بہت زیادہ ہے اور تمہیں لازماً جواب دی کرنی ہو گی۔ یہاں آپ نے دیکھا کہ مضمون تدریجیاً ایمان باللہ سے ایمان بالآخرۃ کی طرف منتقل ہو گیا۔ قرآن حکیم میں اس مضمون کی دوسری نہایت حسین نظری سورۃ المؤمنون کے آخر میں ہے کہ : ﴿فَأَفْحَسْبَتُمْ أَنْبَاءَ خَلْقَنِكُمْ عَبَّشَا وَأَنْتُمْ كُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ "کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ ہم نے تمہیں "عبد" پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹائے نے جاؤ گے" ۳

صفتِ علم کے تین ابعاد

چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ کی صفاتِ کمال کے ضمن میں صفتِ علم کا ذکر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی جن دو صفات پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے، وہ صفتِ ندرت اور صفتِ علم ہیں۔ چنانچہ ”وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ“ اور ”وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ“ کے الفاظ قرآن حکیم میں بکار ادا و اعادہ اور دھونے ہیں۔ ان میں سے صفتِ علم کے بیان میں سورۃ التغابن کی یہ چوتھی آیت اس اعتبار سے بڑی منفرد ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفتِ علم کو تین مختلف اسالیب سے بیان کیا گیا ہے، یا یوں کہ لمحے کے ہاری تفہیم کے لئے اس مقام پر اللہ کے علم کے تین ابعاد (dimensions) کو نمایاں کیا گیا ہے۔

چنانچہ ارشاد فرمایا : ﴿بِعَلْمٍ مَا رَفِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ ”وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔“ اب آپ غور کیجئے کہ باتِ تکمل ہو گئی، اس لئے کہ ”آسمانوں اور زمین“ سے مردائل کائنات ہے اور اس کے علم میں ہر شے کا علم شامل ہے، لیکن اس پر مزید اضافہ فرمایا : ﴿وَبِعَلْمٍ تَائِيْرُونَ وَمَا تُعْلِمُنَّ﴾ ”اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو یا چھپا کر رکتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو یا اعلانیہ کرتے ہو۔“

یہ ایک دوسرے رخ سے اللہ کے احاطہ علمی کا بیان ہو گیا۔ لیکن پھر مزید تاکید اور زور کے لئے فرمایا : ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الْقُصْدُورِ﴾ ”اور جو کچھ تمہارے سینوں میں غلنی ہے (اور تمہارے تحت الشور میں) مضر ہے وہ سب بھی اللہ تعالیٰ پر عیا ہے اور (اللہ اس کا بھی جاننے والا ہے۔“ ان الفاظِ مبارکہ میں اللہ کے احاطہ علمی کے ایک تیرے عرض کی جانب اشارہ ہے، اس لئے کہ بعض چیزیں تو وہ ہوتی ہیں جنہیں انسان جان بوجہ کر گویا شعوری ارادے کے ساتھ چھپتا ہے ان کا ذکر تلو آیت کے دوسرے حصے میں ہو گیا اور بعض چیزیں وہ ہیں جو انسان کے تحت الشور میں مٹوڑ اور محرك عوامل کی حیثیت سے کار فرا ہوتی ہیں، اگرچہ انسان کو خود ان کا شعور نہیں ہوتا۔ آیت کے تیرے اور آخری حصے میں ان کا بھی احاطہ کر لیا گیا کہ تمہارے وہ اصل حرکاتِ عمل جن کا خود تمہیں شعور حاصل نہیں ہوتا، اللہ ان سے بھی ہا بخر ہے، اور یہ سب اصلاح اشرح ہے ”وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيهِمْ "کی اس پر تھی آئیت پر اللہ تعالیٰ کی توحید اور صفاتیں کمال کیا ہان فتح موت ہے۔

آغاز درس میں اس سورہ مبارکہ کا ایک تجویہ پیش کیا جا چکا ہے کہ اس کی پہلی سات آیات میں ایمانیات ملا شیعی ایمان باللہ "ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرت کا ذکر ہے اور اس کے بعد تین آیات میں ایمان کی پُر زور دعوت ہے۔ پہلے روئے کی ان دو آیات میں سے چار آیات کا مطالعہ ہم کر سکتے ہیں اور اب ہم بقیہ چھ آیات کا مطالعہ کریں گے۔ لذا آئیے کہ پہلے ہم ان کا سلیس و روان ترجمہ ہن نہیں کر لیں۔

﴿الَّمَنْ تَأْتِيَكُمْ لَبُؤُوا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلٍ فَذَاقُوا وَهَا إِلَهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ ذَلِكَ بِإِيمَانِهِ كَانَتْ ثَائِنِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبُيُونَ فَقَالُوا أَبَشِّرْنَا هُمْ دُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلُّوَا وَأَسْفَقْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَنِّي حَمِيدٌ ۝ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ لَنْ يُبَعْثَرُوا قُلْ بَلِي وَرَتَنِي لَنْ يُبَعْثَرُنَّ هُمْ لَنْ يَبْعَثُونَ يَهَا عَمِيلُهُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّوْبَيْرِ ۝ فَأَمْسَأُوا بِاللَّوْ وَرَسُولِهِ وَالثُّورِ الَّذِي أَنْزَلَنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ حَمِيدٌ ۝ بِيَوْمِ بَخْمَعَكُمْ لِيَوْمِ الْحَمْيِ ذَلِكَ بِيَوْمِ التَّقَابِنِ وَمَنْ بُهُمْ مِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا بِكَفِيرٍ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَمُدْعِلُهُ حَثَّتْ تَحْرِي رِمْنَ تَحْرِيَهَا الْأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمٌ ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِإِيمَانَ أُولَئِكَ أَصْحَبُ النَّارِ حَالِدِينَ فِيهَا وَبَئْسَ الْمَصِيرُ ۝﴾

(اتقابن : ۵)

"کیا نہیں تھی بھی ہیں تمیں خبریں ان کی جنوں نے کلرکی روشن انتیار کی تھی اتم سے اپنے اور وہ بکھر پکھے اپنے کئے کی مزا اور ان کے لئے (آخرت کا) درود اک عذاب مند ہے۔ یہ اس لئے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح اور روشن تعلیمات کے ساتھ آتے رہے تو انہوں نے کماکہ کیا انہاں ہمیں بدایت دیں گے؟

پہلے انسوں نے کفر کیا اور پھر مودعی تو اُنہے نے بھی استحقاء اختیار فرمایا، اور اُنہے تو
ہے ی غنی اور (اپنی ذات میں از خود) محمود۔ کافروں کو یہ مخالف طلاق ہو گیا ہے کہ
انہیں (موت کے بعد) انحصار ہے جائے گا۔ (اے نبی ﷺ) اُنکے دیجئے ہیں کہوں
نہیں اور مجھے میرے رب کی حکم ہے کہ تمیں لازماً انحصار ہے جائے گا اور پھر تم کو جتلایا
جائے گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے۔ اور یہ حجراً اللہ پر بست آسان ہے۔ پس ایمان لادہ
اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل فرمایا (یعنی قرآن مجید)
اور جو کچھ حکم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ جس دن وہ حکم کو جمع کرے گا جب
ہونے کے دن (یعنی قیامت کے دن) وہ ہو گا (اصل) ہمارا اور جیت کے فیصلہ کا دن۔
تو جو ایمان لائے گا اللہ پر اور نیک عمل کرے گا تو وہ اس سے اس کی برائیوں کو دور
کر دے گا اور اسے داخل کرے گا ان بانات میں جن کے نیچے نہ رہیں بنتی ہوں گی۔
وہ اس میں رہیں گے بہیش بہیش۔ سیکی ہے بہت بڑی کامیابی۔ اور وہ لوگ جنوں
نے کفر کیا ہو گا اور ہماری آیات کو جتلایا ہو گا وہ ہوں گے آگ والے۔ وہ اس میں
بیش روہیں گے۔ اور وہ بستی برائی کا نکانہ ہے۔

آیات مبارکہ اور ان کے ترجمہ سے یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ یہاں اولًا ایمان بالرسالت
اور ایمان بالآخرت کا بیان نہایت ہی مؤثر اسلوب اور حد درج فصاحت و بلاغت سے ہوا
ہے۔ اس اندازِ کلام کے اعجاز سے ہر وہ شخص لطف لے سکتا ہے جو عربی زبان کی تھوڑی ہی
شدُّ بُھی رکھتا ہو۔

دو آیات میں ایمان بالرسالت کا بیان

پہلے ایمان بالرسالت کے ضمن میں یہ عظیم حقیقت واضح کی جا رہی ہے کہ رسول کا معاملہ
عام و اغتنیں یا ناجین یا مصلحین یا مبلغین کا سامنیں ہے کہ چاہے لوگ ان کی باتیں نہیں چاہے
نہ نہیں کوئی اہم فرق واقع نہیں ہوتا۔ اس کے بر عکس رسول تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے
آخری جنت بن کر آتے ہیں۔ لہذا ان کے انکار "ان سے اعراض اور ان کی محذیب کے دو
نتیجے نکل کر رہتے ہیں اور ان کا انکار کرنے والوں کو دوسرا میں مل کر رہتی ہیں۔ ایک اس
دنیا میں عذابِ استیصال جس کے ذریعے پوری پوری قومیں ہلاک و بر باد کر دی گئیں، جیسے

قوم نوح، قوم هود، قوم صالح، قوم لوط، قوم شعیب اور آل فرعون۔ ان قوموں کا ذکر قرآن مجید میں بار بار اسی اعتبار سے آیا ہے کہ ان کے پاس اللہ کے رسول ایسی واضح تعلیمات کے ساتھ آئے جو فطرت انسانی کے لئے جان پہچانی تھیں۔ مزید برآل یہ رسول کھلے کھلے معجزات بھی لے کر آئے۔ "میقات" میں دونوں چیزوں یعنی واضح تعلیمات اور روشن معجزات شامل ہیں۔ لیکن جب ان قوموں نے ان رسولوں کا انکار کیا اور ان کی دعوت کو رد کر دیا تو وہ نیسا منیتا کر دی تھیں۔ جیسے کہ قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا گیا کہ ﴿كَانَ لَمْ يَغْنُوا فِيهَا﴾ یعنی "وہ قومیں ایسے ہو جائیں جیسے کبھی دنیا میں تھیں ہی نہیں"۔ یہ وہ سزا ہے جو رسولوں کے انکار پر اس دنیا میں ملتی ہے۔ اس کے علاوہ ابھی ایک دوسری سزا باقی ہے اور وہ ہے آخرت کی سزا، یعنی جہنم ایہ محضی تشریع و توضیح ہے اس آیت مبارکہ کی:

﴿اللَّمَّا يَأْتِكُمْ نَبِيُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلٍ فَذَاقُوا وَبَأْرَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ۵۰

"یا خسیں بچ چکی ہیں تھیں خبریں ان کی جنوں نے کفر کیا تھا پہلے اتوہہ اپنے کرو توں کی سزا کا ایک سزا (اس دنیا میں) بچھے پکھے اور ان کے لئے (آخرت میں دوسری سزا کے طور پر اور دنکا بذراک بذراک بیمار ہے)"۔

اس بھی "استفهام تقریری" کا سلوب اس لئے اختیار کیا گیا کہ سورہ تغابن مد فی سورت ہے۔ گویا قرآن مجید کا لگ بھگ دو تھائی حصہ جو کسی سورہ توں پر مشتمل ہے اس سے بہت پہلے تازل ہو چکا تھا جس میں ان اقوام کا ذکر بارہا آپ کا تھا جو رسولوں کی دعوت کو رد کرنے کے جرم کی پاداش میں بلا ک کردی گئی تھیں۔

رسالت کے ضمن میں اگلی آیت میں جو دوسری نہایت اہم بات یہاں ہوئی وہ یہ ہے کہ رسولوں کے باب میں لوگوں نے جو سب سے بڑی ثبو کر کھائی اور ان کو مانے اور ان پر ایمان لانے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ان کے سامنے آگئی وہ ان رسولوں کی بشریت تھی۔ ظاہر ہے کہ رسول انسان تھے، انسانوں کی طرح کھاتے پیتے تھے۔ وہ نبوت و رسالت پر فائز ہونے سے قبل دنیا میں کاروبار کرتے تھے، بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، ان کو بھی وہ

اعتیاں میں لاحق ہوتی تھیں جو دوسرے تمام انسانوں کو لاحق ہوتی ہیں۔ مجیسے خود حضور
 ﷺ نے مکہ میں چالیس برس کی عمر شریف تک کار و بار کیا ہے۔ چنانچہ مشرکین مکہ نبی
 ارم ﷺ پر اجرائے وقیٰ اور ظہورِ نبوت کے بعد اسی نوع کے اعتراضات وارد کیا
 کرتے تھے جن کا قرآن مجید میں مختلف اسالیب سے متعدد مقامات پر ذکر ہوا ہے۔ مثلاً سورۃ
 الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کا یہ قول لئی فرمایا ہے : ﴿وَقَاتُوا مَا إِلَّا مُنْذَهٌ
 الرَّسُولُ بِمَا كُلُّ الظَّلَعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ﴾ "اور (یہ مشرکین) کتنے
 گھے کہ اس رسول کی کیا کیفیت ہے کہ کھاتا ہے کھانا اور پٹا پھرتا ہے ہزاروں میں۔" ملدا
 ہیشہ یہی ہوا کہ رسولوں کی بشریت ان پر ایمان لانے میں بست بڑی رکاوٹ بھی رہی کہ یہ تو
 ہم مجیسے انسان ہیں۔ ہماری یہی طرح کے ہاتھ پاؤں ان کے بھی ہیں اور ہماری یہی طرح کی
 ضروریات و حواسِ ان کو بھی لاحق ہیں۔ پھر یہ کیسے ہماری ہدایت پر ماسور ہو سکتے ہیں؟ چنانچہ
 یہ ہے وہ سب سے بڑی ثنوں کہ لوگوں نے نبوت درسالت کے ہاتھ میں کھائی اور یہ ہے وہ
 سب سے بڑا تجاذب جو درسالت کے ہاتھ میں لوگوں کے سامنے آیا، جسے کفر کے سرواروں
 اور وقت کے بڑے بڑے چودھریوں نے جن کی سیادت و قیادت کو رسول کی دعوت و توحید
 سے فطرہ لاحق ہوتا تھا، لوگوں کو درخیلانے کا ذریعہ بنایا۔ انسوں نے لوگوں سے کما کر تم
 اپنے ہی مجیسے انسان کو رسول مان کر ان کا اجاع کرو گے تو بڑے گھائی میں رہو گے۔ چنانچہ
 انسوں نے خود بھی رسولوں کی تقدیم سے الکار کیا اور عامۃ الناس کو بھی اس سے ہازر کھا
 ۔ اسی حقیقت کا ذکر ہے آگلی آیت مبارکہ میں کہ رسولوں کی دعوت سے الکار کا ایک

اہم سبب ان کا انسان ہونا بھی رہا ہے، "ارشاد ہوتا ہے :

﴿ذِلِكَ يَمَّا نَحْنُ كَانَتْ تَنَاهِيَهُمْ رَسُولُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَاتُوا
 أَبْشَرَتْ بِهِدْوَنَا، فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَأَسْنَفْتَنَى اللَّهُ، وَاللَّهُ
 عَنِّيْ حَمِيدٌ﴾ ۴۵

"یہ اس لئے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح اور روشن تعلیمات اور
 سیروات کے ساتھ آتے رہے تو انسوں نے کما کر کیا بیڑہ میں ہدایت دیں گے؟ ہیں
 انسوں نے کفر کیا اور چینہ مسولیٰ تو اللہ نے ہی استثناء القیار فرمایا، اور اللہ تو ہے یہ

بِمَا تَعْمَلُونَ، فَمَنْ لَتَحِزَّنَّ بِالْأَخْسَانِ إِحْسَانًا وَبِالشُّرِّ
شُوَّهٌ وَإِنَّهَا لَحَثَةٌ أَبْدًا أَوْ كَثَارًا أَبْدًا))

"لوگو اتم جانتے ہو کہ رائد (قالہ کار، ہبر وہما) اپنے قافلے کو کبھی دھوکہ نہیں
دیتا۔ اللہ کی حمّام اگر (بغرض مکال) میں تمام انسانوں سے جھوٹ کہ سکاتے بھی تو
سے کبھی نہ کہتا اور اگر تمام انسانوں کو فریب دے سکاتے بھی تمہیں کبھی نہ دیتا۔
اس اللہ کی حمّام کے سوا کوئی الہ نہیں امیں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف
خصوصاً اور پوری نوع انسانی کی طرف عومنا۔ اللہ کی حمّام سب یقیناً مر جاؤ
گے جیسے (روزانہ) سو جاتے ہو، پھر یقیناً انھائے جاؤ کے جیسے (ہر چیز) بیدار ہو جاتے
ہو۔ پھر لازماً تمہارے اعمال کا حساب کتاب ہو گا اور پھر لازماً تمہیں بدلتے ہو،
اچھائی کا اچھا اور براہی کا براہ۔ اور وہ جنت ہے یہ شکر کے لئے یا آگ ہے داعی۔"

اب تک کے مطالعے پر ایک نکاح بازگشت ذاتی سے معلوم ہوتا ہے کہ سات آیات
میں ایمانیاتِ ملائیں توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہو گیا۔ چنانچہ توحید اور صفاتِ
باری تعالیٰ کے ضمن میں چار آیات، رسالت کے موضوع پر دو آیات اور آخرت یا معاد
کے بارے میں ایک آیت وارد ہوئی۔ ان ایمانیاتِ ملائیں بالخصوص ایمان بالآخرت کی مزید
تشریح ایک خطبہ نبویؐ سے بھی ہمارے سامنے آگئی۔ اب اگلی یعنی آٹھویں آیت سے
ایمان کی پر زور دعوت دی جا رہی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے : ﴿فَآمِنُوا بِاللَّهِ
وَرَسُولِهِ وَالثُّورِ الْذِي أَنْزَلْنَا﴾ "پس ایمان لا اؤالہ پر اور اس کے رسول ﷺ پر
پر اور اس فور پر جو ہم نے نازل کیا (یعنی قرآن مجید)" — ان الفاظ میں اولاً اللہ پر ایمان
کی دعوت دی گئی اور پھر ایمان بالرسولؐ کے ساتھ اس نویرہ ایت پر ایمان کو بھی شامل کر لیا
گیا جو دعیٰ اور کتاب کی صورت میں رسولؐ پر نازل کیا گیا اور چونکہ بعد کی دو آیات (نمبر ۹
اور ۱۰) میں ایمان بالآخرت کی ذور دار دعوت آرٹی ہے لہذا آیت نمبر ۸ کے اقتداء پر ایک
بار پھر اللہ کی صفتِ علم کا حوالہ دے دیا گیا کہ : ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾
"اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے" یعنی وہ تمہاری ہر حرکت، ہر عمل اور
ہر ہر فعل ہی نہیں، تمہاری نیتوں اور ارادوں سے بھی باخبر ہے۔ یہاں تک کہ تمہارے
تحت الشور اور لا شور بھی اس پر بالکل عیاں ہیں!

ہار اور جیت کے فیصلے کا دن

اکلی دو آیات (۹، ۱۰) میں پھر ایمان بالآخرت کا بیان ہے۔ اس سے قبل آئت نمبرے میں بھی ایمان بالآخرت کے اولین اور اہم ترین جزو یعنی بعث بعد الموت کا اثبات نہایت پر زور انداز میں ہو گیا ہے۔ اب ان دو آیات میں اولاً آخرت کی اصل حقیقت اجمالاً بیان کی گئی، یعنی قیامت کا دن ہی ہار اور جیت اور کامیاب و ناکامی کے اصل فیصلے کا دن ہے۔ جو اس دن کامیاب قرار پائے گاوی جیستا کامیاب ہو گا اور جو اس روز ناکام قرار دے دیا گیا وہی اصلاً ناکام ہو گیا۔ گویا جو اس دن جیتا وہی جیتا اور جو اس دن ہارا وہی ہارا ॥ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے : ﴿يَوْمَ يَحْمَلُوكُمْ لِيَوْمِ الْحِجَّةِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابِنِ﴾ "وہ دن کہ جس دن وہ (اللہ) تمہیں جمع کرے گا مجمع ہونے کے دن (یعنی یوم قیامت) وہی ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا اصل دن" ॥ "تعابن" ہنا ہے لفظ "غبن" سے۔ غبن کا لفظ ہمارے یہاں اردو میں بھی مستعمل ہے، یعنی کسی کو نقصان پہنچانا، کسی کامال و بیان، مالک کی اجازت اور اس کے علم میں لائے بغیر اس کے مال میں تصرف کر لینا، یہ تمام معنایم لفظ غبن میں شامل ہیں۔ لیکن جب یہ لفظ باب شاعل میں "تعابن" کی صورت اختیار کرتا ہے تو اس میں مزید بست سے معافی و مطالب شامل ہو جاتے ہیں۔ تعابن کا لفظ اس کیفیت کو ظاہر کرتا ہے جو اس دنیا کے جملہ معاملات میں معلوم و معروف ہے۔ یعنی یہ کہ اس دنیا میں جو باہمی معاملات ہوتے ہیں ان میں ہر فریق چاہتا ہے کہ وہ دوسرے سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائے یا بالفاظ دیگر دوسرے کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچائے۔ دکاندار چاہے گا کہ گاہک سے زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرے جبکہ خریدار کی خواہش ہو گی کہ اسے داموں میں زیادہ سے زیادہ رعایت حاصل ہو۔ اسی طرح کاروبار دنیا کے ہر شعبے میں ایک دوسرے سے آگے لٹکنے کی ایک دوڑ گئی ہوئی ہے۔ پس ایک دوسرے کو زیادہ سے زیادہ زک پہنچانے کی کوشش کا نام ہے "تعابن"۔ اس تعابن کا ایک ظہور تو نبوی معاملات میں ہر آن ہو رہا ہے کہ کسی کی جیت ہو رہی ہے اور کسی کی ہار اور کسی کو نفع حاصل ہو رہا ہے اور کسی کو نقصان۔ لیکن اس دنیا کی ہار جیت بھی عارضی ہے اور نفع نقصان بھی عارضی۔ ہار جیت

کے نیچے کا عمل دن بیویم قیامت ہے۔ اس لئے کہ اس دن کی جیت بھی ابتدی ہوگی اور ہماری بھی دلائی ہوگی اور نفع بھی مستقل ہو گا اور ف Hassan بھی دلائی ہو گا۔ اس کے لئے یہاں فرمایا گیا: ”ذلیکَ يَسِّعُمُ الْشَّفَاعَةِ“ اصل میں تو ہاں جا کر کھلے گا کہ کون کیا تھا اور کس کی حقیقت کیا تھی اور کون یا مراد ہوا اور کون نامراد اور ہمار کس کی ہوئی اور جیت کس کی اور یہی اس دنیا کی ہار جیت اور کامیابی و ناکامی تو یہ سب عارضی اور قابلی ہیں۔ اصل تجھے اصل بحقیقی اصل بحقیقی شیخ ہو قیامت کے روز سامنے آئے گی।

آگے اسی ہار جیت اور کامیابی و ناکامی کی تفصیل بیان ہوئی ہے:

﴿وَمَنْ يَعْمَلْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ
وَمَذْعُولُهُ حَنَّاتٍ تَخْرِي مِنْ تَحْزِيزِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفُرُوزُ الْعَظِيمُ﴾ ۴۰

”تو جو اللہ پر ایمان رکھے گا اور عمل کرے گا بھلے اور درست اللہ اس سے اس کی برائیوں کو دور فرمادے گا اور داخل کرے گا سے ان باتات میں جن کے دامن میں نہیں بنتی ہوگی، جن میں وہ بیشہ بیشہ رہیں گے۔ لیکن ہی بڑی اور اصل کامیابی۔“

یہ جیت کی شرح ہو گئی، یعنی جنت میں داخلہ اور بیشہ کاظودا گویا یہ ہے مستقل، واقعی اور حقیقی جیتا اس کے بر عکس ہار کیا ہے؟ اسے آئت نمبر ۴۰ میں واضح فرمادیا گیا:

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَأَكْذَبُوا إِيمَانَنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
خَالِدِينَ فِيهَا وَبِشَّرَ السَّمِيرِ﴾ ۴۰

”اور جن لوگوں نے اٹکار کیا اور ہماری آیات کو جھٹکایا وہ آگ والے ہیں، جس میں وہ بیشہ رہیں گے، اور وہ بہت سی بر امکانات ہے۔“

اس موقع پر ایک اور ضروری بات بھی سمجھ لئی چاہئے۔ وہ یہ کہ قرآن مجید میں جہاں کفر اور حکمذیب دونوں جرائم کا ذکر ساتھ ساتھ ہوتا ہے، وہاں کفر اس کیفیت کو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ کی معرفت کی ہوشیاری تک انسان کی اپنی فطرت اور اس کے اپنے باطن میں مضر ہیں، انسان ان کو دیوارے چھپا دے اور انہیں بروئے کارندہ آنے دے۔ اور حکمذیب اس کے اوپر دھرا جرم ہے کہ جب رسول آئے ”کتاب اتری“ اور نورِ وحی نے حق کو بالکل

روشن اور مبرہن کر دیا تو اس نے اسے جھلادیا۔ اس طرح دو جرم جمع ہو گئے۔ گویا کفر اور حکمذیب بالکل ہم معنی انہیں ہیں بلکہ "ظُلْمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ" کے مصادق ظلم پر مزید ظلم اور ایک جرم پر دو سرے کے اضافے کے متراوف ہیں۔

خلاصہ مباحثہ

سورۃ النازن کے پہلے رکوع کی خفتر تشریع و توجیح ختم ہوئی۔ اس رکوع میں سب سے پہلے اللہ کی ہستی، اس کی توحید اور اس کی صفاتِ کمال پر آیاتِ آفاقی کی شادوت کو اس پیرائے میں بیان کیا گیا ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے، "اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ اور پھر اس کی جلالتی شان اور اس کی بعض صفاتِ کمال خصوصات درت اور علم کا بیان ہوا۔ پھر رسالت کے ذیل میں رسولوں کی حکمذیب کرنے والی قوموں کے عذابِ الہی سے ہلاک ہونے کا بیان بھی آکیا اور رسالت کے باب میں ان کی اصل گرامی کی نشاندہی بھی کردی گئی کہ انہوں نے بشریت اور نبوت و رسالت کو ایک دوسرے کی ضد خیال کیا۔ اس کے بعد مکریں بعثت بعد الموت کی شدت کے ساتھ تردید اور بعثت بعد الموت، حشر و تشریع اور جزا و سزا کا بیان اور اس حقیقت کی وضاحت ہوئی کہ اصل ہارجیت اور کامیابی و ناکامی کا فصل قیامت کے دن ہو گا۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ رسول ﷺ اور قرآن مجید پر ایمان کی پر زور دعوت بھی آئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقی ایمان نصیب فرمائے، ہمارے قلوب و اذہان کو ایمان کے حقیقی نور سے منور فرمائے اور ہمیں آخرت کی فوز و فلاح سے برهہ ور فرمائے۔

آمین یا رب العالمین ۱

صفحاتِ گزشتہ میں سورۃ النازن کے پہلے رکوع کا مطالعہ کامل ہو چکا ہے۔ چنانچہ اس رکوع کی گل دس آیتوں میں سے پہلی سات آیات میں ایمانیاتِ ثلاثیتی توحید، معاد اور رسالت کا بیان بھی ہو چکا ہے۔ اور بقیہ تین آیات میں ایمان کی نمایت مٹوڑ اور زور دار دعوت بھی آچکی ہے۔ اس رکوع کے مضمین کی تقسیم و ترتیب کے ضمن میں ایک نمایت حسین توازن ہمارے سامنے آتا ہے، اور وہ یہ کہ جہاں ایمان کے بیان میں چار آیات توحید کے لئے وقف ہیں اور رسالت اور معاد دونوں کو تین آیات میں سولیا گیا ہے،

غنى اور اپنی ذات میں خود محدود اور مستودہ صفات۔"

یہاں آیت کے آخری الفاظ میں سمجھائے کا بڑا یہ پیار انداز ہے۔ یعنی اللہ بنے نیاز ہے، اس کو کسی کی احتیاج نہیں۔ کوئی اسے مان لے تو اس کی بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا اور کوئی انکار کر دے تو اس کی جلالت شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ یہ تو اس کا کرم اور فضل، اور اس کی عنايت و رحمت ہے کہ اس نے انسانوں کی ہدایت کے لئے ان ہی میں سے رسول بیووث فرمائے جنہیں اپنی ہدایت کاملہ سے سرفراز فرمایا اور جن پر اپنی کتاب نازل کی۔ اب اگر کوئی تاقدیری کرے اور انکار و اعراض کی روشن احتیار کرے تو اس سے اللہ کا کچھ نہیں مگرتا، اس لئے کہ ان سے اللہ کی کوئی غرض وابستہ نہیں ہے۔ البتہ اس کافوری نقصان اور خسارہ ان ناشکروں اور نافرمانوں کو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نظر عنایت اور ثقاۃ الثقات کا رخ ان کی جانب سے پھیر لیتا ہے اور اپنی شان بے نیازی کا انکار فرماتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بے نیازی کا جامدہ تو صرف اسی کی ذات پر راست آتا ہے، اس لئے کہ وہ "الغنى" بھی ہے اور "الجید" بھی۔

رسالت کے ضمن میں ایک گمراہی کے دو مختلف مظاہر

یہاں یہ بات بھی غور طلب ہے کہ رسالت کے باب میں ایک گمراہی کا ظہور تو اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ رسول کی رسالت کو اس دلیل سے رد کر دیتے ہیں کہ یہ تو ہمارے ہی جیسا انسان ہے۔ گویا رسول کی بشریت قبول حق میں مانع ہو جاتی ہے، جس کا منفصل ذکر اس آیت میں آگیا۔ لیکن یہ محاطلہ یہیں پر نہیں ختم ہوا تا بلکہ اسی مرض کا ظہور رسولوں کی امتیوں میں بعد میں ایک دوسری شکل میں ہوتا ہے اور وہ یہ کہ بہت سے لوگ محبت اور عقیدت کے غلو کے باعث نبیوں اور رسولوں کی بشریت کا انکار کر دیتے ہیں۔ گویا بیادی طور پر مرض وہی ہے کہ بشریت اور ثبوت و رسالت میں لوگوں نے گند اور تضاد محسوس کیا اور اس سبب سے ایک جانب مذکروں اور کافروں نے رسول کی بشریت کی بیحاد پر اس کی رسالت کی نقی کردی اور اس کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور دوسری جانب غالب امتیوں نے رسولوں کی رسالت کی بیحاد پر ان کی بشریت کا انکار کر دیا۔ یہاں تک کہ بعض

انجیاء و حسل کو خدا کا بینا قرار دے کر الوہیت میں شرک کر دیا گیا۔ جیسے یہود کے ایک گروہ نے حضرت عزیز علیہ السلام کو خدا کا بینا قرار دیا اور پال کے تسبیحی نے تو حدی کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا صلبی بینا قرار دے کر مستقل شیعیت ایجاد کر لی۔ گویا ذہنی سرفہ اور گرامی ایک ہی ہے۔ البتہ اس کے ظہور کی شکلیں مختلف ہیں۔ یعنی رسولوں کی موجودگی میں بشریت کی بنیاد پر رسالت کا انکار اور بعد میں رسالت کی بنیاد پر بشریت کا انکار ا

وقوع قیامت کا پُر زور اثبات

اس کے بعد ایمان بالآخرۃ یا الہمان بالمعاد کا بیان شروع ہوتا ہے اور ساقویں آہت اسی ضمون پر مشتمل ہے۔ ایمان بالآخرۃ کی عقلي اور منطقی اساس تو ایمان بالله کے ضمن میں تیسری آہت کے آخری میں "وَالْبِيَهُ الْمَصِيرُ" کے الفاظ مبارک میں قائم کردی گئی تھی۔ ابہ رمان بھی فحاحت و بلاغت اور بڑے شد و مد کے ساتھ ایک آہت میں اس کے انکار کی پروردہ نہیں اور اس کے وقوع کا نامایت تاکہ یہ اثبات کر دیا گی۔ چنانچہ ارشاد وہ ہوا تھا ہے : ﴿زَعَمَ الظَّالِمُونَ كَفَرُوا أَنَّ لَنَا يُبَعْثُرُونَا﴾ مخالف ہو گیا ہے ان کافروں کو کہ ان کو دوبارہ اٹھایا نہ جائے گا۔ زعم کا لفظ اردو میں بھی بے بنیاد خیال کے محتوں میں مستعمل ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں کو بیاز ہم ہے، یعنی اسے اپنے بارے میں مخالف ہے اور وہ اپنے آپ کو بت کچھ سمجھتا ہے، ورانحا میک اس کی اصل حیثیت کچھ نہیں ہے اور وہ بھن ایک خیال خام اور ایک بے بنیاد غنی میں جلا ہے۔ لکھاری زعم اور خیال خام میں جلاتے کہ مرنے کے بعد ان کو دوبارہ اٹھایا نہ جائے گا۔ قرآن مجید میں کفار کے اس اعتراض اور استقباب کو بت سے مقامات پر مختلف الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، اور خاص طور پر کمی سورتوں میں ان کے اس خیال خام کی نہی اور بعث بعد الموت کے اثبات کے لئے آفاق و انفس سے مفصل دلائل دیئے گئے ہیں۔ یہاں ان دلائل و برائین کے اعادے کی بجائے نبی اکرم ﷺ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ : ﴿فُلِّبَلِي وَرَبِّي لَتَبْعَثُنَّا نَمَّ لَتَبْعَثُنَّا بِمَا عَمِلْنَا﴾ (اے نبی ا) کہ دیجئے کیوں نہیں، اور مجھے اپنے رب کی تم ہے، تم لازماً اٹھائے جاؤ گے، پھر تم نے (دنیا میں) جو کچھ کیا ہے وہ لازماً تمہارے سامنے

رکھ دیا جائے گا۔ "اس اسلوب میں جو زور اور تاکید ہے اس کا صحیح اندازہ وہی لگائے ہیں جو عربی زبان سے تھوڑی بست واقفیت رکھتے ہوں۔ عربی زبان میں اس سے زیادہ تاکید کا کوئی اور اسلوب نہیں ہے کہ فعل مضارع سے پہلے لام مفتوح اور آخر میں نون مشدہ ہو۔ یہاں تاکید کایی اسلوب آیا ہے۔

اس آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا : ﴿وَذِلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ "اور یہ چیز اشہد پر بت آسان ہے۔" یعنی بظاہر تمیں بت مشکل معلوم ہو رہا ہے لیکن جب اللہ کو مان لیا جائے اور یہ بھی تسلیم کر لیا جائے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے تو اس استغاب کی تجھاش کمال باقی رہتی ہے؟ جس قادر مطلق نے پہلے پیدا کیا تھا اس کے لئے دوبارہ پیدا کرنا بت آسان ہے۔

چیزیں کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے اس آیت مبارکہ میں کوئی عقلی استدلال یا منطقی دلیل موجود نہیں ہے بلکہ یہاں دراصل خطابی اور اذعانی دلیل کا اسلوب ہے۔ یعنی نبی اکرم ﷺ سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ پورے یقین و ثوق کے ساتھ اللہ کی حکم کھا کر اور اپنے رب کی شادت پیش کرتے ہوئے ان منکرین سے کہہ دیجئے کہ "ایسا لازماً ہو کر رہے گا اور تم لازماً محابہ کے لئے دوبارہ اخھائے جاؤ گے۔" زیادہ گمراہی میں غور کیا جائے تو نظر آتا ہے کہ یہاں دراصل نبی اکرم ﷺ کی سیرت و شخصیت کا وزن بطور دلیل پیش کیا جا رہا ہے کہ غور کرو کہ یہ کون کہہ رہا ہے اور کس کی زبان مبارک سے یہ کلمات او اکرائے جا رہے ہیں اس کی سیرت اور اخلاق کا عالم کیا ہے اس کی صداقت و امانت کے بارے میں تمہاری خفہت رائے کیا ہے او "الصادق" اور "الامن" شخص ہے جو قسم کھا کر بعث بعد الموت کی خبر دے رہا ہے اور پورے یقین اور اذعان کے ساتھ دے رہا ہے۔ یعنی وہ قلیلیوں کی طرح یہ نہیں کہ رہا کہ میرا مکان یہ ہے یا میرا خیال یہ ہے یا میری عقل یہ حکم ٹھکاتی ہے، یا مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے، بلکہ پورے وثوق کے ساتھ خبر دے رہا ہے کہ ایسا ہو کر رہے گا۔ گویا یہ قلیلیانہ کلام نہیں ہے کہ جس میں کسی شک و شبہ کا امکان ہو، بلکہ اللہ کا کلام ہے جو رسول ﷺ کی زبان سے ادا ہو رہا ہے۔ لہذا اس میں شبہ کا ذر اسابی ٹھاکر موجود نہیں امند بر آں رسولوں کا معاملہ محض "ایمان بالشیب" کا نہیں ہو تا بلکہ انہیں

حیاتِ دنیوی ہی میں "ملکوت السرواتِ زالارض" یہاں تک کہ جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو احوالِ آخرت کی جو خبریں دیں تو اپنے ذاتی مشاہدہ اور معائشوں کی اساس پر اور کامل تبیین و اذعان کے ساتھ دیں۔ پس معلوم ہوا کہ یہاں انگرچہ کوئی عقلی و منطقی دلیل موجود نہیں ہے لیکن اس اسلوبِ بیان اور اس اندازِ کلام میں ایک بڑی عظیم اذعانی و ایقانی دلیل مضرب ہے جس میں اصل وزنِ جناب محمد رسول اللہ ﷺ کی نورج کے مانند روشن سیرت و شخصیت کا ہے۔ چنانچہ سیرت کی کتابوں میں ذکر موجود ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے جب کوئی مفاضا پر کھڑے ہو کر اپنا پسلاعوتی و تبلیغی خطبہ ارشاد فرمایا تو پہلے لوگوں سے دریافت کیا کہ تم نے مجھے کیا پایا؟ گویا پہلے ان سے اپنی اس صداقت، امانت اور دیانت کی تصدیق و توثیق کرالی جسے وہ بہت پہلے سے تلہم کرچکے تھے، پھر دعوت پیش فرمائی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ مخالفین یہ سوچیں کہ جس شخص نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، جس کا شعار ہی صداقت و امانت ہو، جس نے کبھی کسی کو دھوکہ اور فریب نہ دیا ہو، مکاواہ اللہ پر جھوٹ باندھنے لگ جائے گا اکیا وہ پوری نوع انسانی کو فریب دینے پر آمادہ ہو جائے گا اپس حضور ﷺ کی میکی سیرت و کروار اور آپؐ کا یہی اخلاقی حصہ سورۃ التغابن کی ساتھیں۔ اہمت کے پہ مظہر میں بطورِ دلیل پہنچا ہے۔

نبی اکرم ﷺ کی دعوت کے ابتدائی دور کا ایک خطبہ بھی ملتا ہے جسے "نوح اپلانڈ" میں نقل کیا گیا ہے اور جس میں بالکل وہی انداز، وہی اسلوب، فصاحت و بیان و بیان کا وہی معیار اور خطابت کی وہی شان ہے جو اس آہمیت مبارکہ کا طرہ امتیاز ہے۔ حضور خود بھی اس کے مدی ہیں کہ "أَنَا أَفْصَحُ الْعَرَبَ" یعنی "میں عرب کا فصح ترین انسان ہوں" اور واقعیہ ہے کہ آپؐ کا یہ خطبہ اس دعویٰ کی بہت بڑی دلیل ہے۔ ارشاد فرمایا:

((إِنَّ الرَّاِيَةَ لَا يَكُنْدِبُ أَهْلَهُ، وَاللَّهُ لَوْ كَذَبَ النَّاسَ
حَمِيعًا مَا كَذَبْتُكُمْ، وَلَوْغَرَزَتُ النَّاسَ حَمِيعًا
مَا عَغَرَزْتُكُمْ۔ وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَنِي لَرَسُولُ اللَّهِ
إِلَيْكُمْ خَاصَّةً وَإِلَى النَّاسِ كَافَّةً۔ وَاللَّهُ لَتَمُوْتُنَّ كَمَا
تَنَامُونَ، ثُمَّ لَتَبْعَثُنَّ كَمَا تَسْتَبِقُ ظُلُونَ، ثُمَّ لَتُحَاسَبُنَّ

یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند
ہیان و ہم و گماں، لا اللہ الا الشا

پھر دو آیات میں انسان سے صادر ہونے والے اعمال و افعال کے ضمن میں دو
بلوؤں سے ایمان کے اثرات کا بیان ہے — اور آخری دو آیات میں ”مال و دولت
دنیا“ اور ”رشتہ و پیوند دنیوی“ کے ضمن میں ایک مومن کے نقطہ نظر کو واضح کیا گیا ہے۔

۱۔ تسلیم و رضا

سب سے پہلی بات مصائب دنیوی کے بارے میں فرمائی گئی۔ فرمایا : ﴿مَا أَصَابَ
مِنْ شُعْبَيْتَةِ الْأَيْمَانِ اللَّهُ أَعْلَمُ﴾ ”نہیں نازل ہوتی کوئی مصیبت مگر اللہ کی اجازت
سے“۔ آیت کے اس چھوٹے سے گلڑے میں معانی و مفہوم کا ایک خزینہ پناہ ہے۔ اس
کی قدرے تشریح و توضیح کی جائے تو وہ یہ ہو گی کہ اگر تم ایک علیم اور حکیم اللہ کو مانتے ہو کر
وہ ہر چیز پر قدرت بھی رکھتا ہے، اور یہ بھی تسلیم کرتے ہو کر وہی اس کائنات کا صلن حکران
ہے اور اس کے اذن کے بغیر ایک پتہ تک نہیں بل سکتا تو اس کا لازمی اور منطقی نتیجہ یہ ہے
کہ کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی نقصان، کوئی حدادش، کوئی موت، کوئی انتہا اور کسی بھی
تم کے ناخوٹگوار واقعات و حوادث اذنِ خداوندی کے بغیر وارد اور ظبور پذیر نہیں ہو سکتے
— اب جو چیز اُس اللہ کے اذن سے ہو جو سچ ہے اور بصیر بھی، علیم بھی ہے اور خیر
بھی اور ان سب پر مستزاد کامل حکیم بھی، تو اس پر شکوہ و شکایت کیسی اور اس پر دل میں
نکدر کیوں؟ واضح رہے کہ یہاں اس صدمہ اور طالل کی بات نہیں ہو رہی جس کافوری اور
غیر اختیاری اثر طبیعت پر ہوتا ہے بلکہ یہاں اس حقیقت کی جانب رہنمائی ہو رہی ہے کہ
بندہ مومن کا تکب ناخوٹگوار واقعات و حوادث سے کوئی مستقل بگاث قول نہیں کرتا۔
چنانچہ نہ اس کی زبان پر گلہ اور شکوہ آتا ہے اور نہ ہی اس کے دل میں اپنے رب کی جانب
سے کسی بد گمانی کا شایہ پیدا ہوتا ہے، بلکہ ان مصائب و آلام پر بھی اس کا رد عمل بالکل وہی
ہوتا ہے جو اس مصرے میں بیان ہوا کہ ہرچہ ساقی نارینت میں اطاف است (میرے
ساقی نے میرے پیانے میں جو بھی ڈال دیا ہے وہ سرا سراس کا لطف و کرم ہے) اس لئے کہ

توحید پر ایمان کالازی تقاضا ہے کہ انسان کو یقین ہو کہ جملہ واقعات و حادث خواہ وہ اس عالم اسباب و عمل کے کتنے ہی طول طویل سلسلے کے نتیجے میں ظہور پذیر ہو رہے ہوں چونکہ ان جملہ اسباب و عمل کا آخری سراللہ کے ہاتھ میں ہے لہذا مستبِ حقیقی اور متواتر حقیقی اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ لہذا ان حادث دنیوی پر ایک بندہ مومن کار د عمل کی ہونا چاہئے کہ اگر میرے رب کو یہی منکور ہے تو میں بھی اس پر راضی ہوں۔ اسی کو مقامِ تسلیم و رضا کہتے ہیں جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا ہے۔

بروں کشید ز پچاک ہست و بود مرًا

چ عقدہ ہا کہ مقامِ رضا کشود مرًا

یعنی اس مقامِ رضانے میرے کیسے کیسے عقدے حل کر دیئے کہ میں اس پیچ و تاب سے بالکل نجات پا گیا کہ ایسا کیوں ہے اور ویسا کیوں نہیں ہے اور یہ کیوں ہوا، وہ کیوں نہ ہوا؟ چنانچہ اسی کا ذکر ہے آیت کے بقیہ حصے میں کہ : ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، وَاللَّهُ يُكْلِلُ شَرَّيْعَ عَلَيْهِمْ﴾ اور جو کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ اس کے دل کو بدایت دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یعنی جب انسان قلبی ایمان و یقین کے نتیجے میں اس حقیقتِ نفس الامری کا اور اس کا حاصل کر لیتا ہے کہ اس کائنات اور عالم اسباب و عمل میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اذینِ خداوندی سے ہو رہا ہے تو اللہ اس کے دل کو تسلیم و رضا کی پرایت بخشاتا ہے اور اسے قلبی اطمینان و سکون کی دولت سے نوازتا ہے۔ اور جب انسان اس مقامِ تسلیم و رضا پر پہنچ جاتا ہے تو اس کے احساسات فی الواقع یہ ہو جاتے ہیں کہ مجھے بھی وہی پسند ہے جو میرے رب نے میرے لئے پسند کیا ہے، وہ میرا موٹی ہے، آتا ہے، پروردگار ہے، خالق و مالک ہے اور مزید برآں میرا خیر خواہ ہے، جو میری مصلحتوں کو مجھ سے زیادہ جانے والا ہے۔ لہذا مجھے اس کا ہر فعل بروپر چشم قبول ہے۔ گویا طر

”مر تسلیم ثم ہے جو مزاج یار میں آئے“

بلکہ اس سے بھی بڑھ کریے کہ

نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاک یخت

سر دوستان سلامت ک ک تو نجھر آزمائی

جب کسی بندہ مومن کے دل میں راضی برضاۓ رب ہونے کی یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو اسے سینکڑوں الجھنوں سے نجات مل جاتی ہے، اور اس کے نہایت خانہ قلب میں نہ حزن و ملال مستقل طور پر ڈیرہ ڈال سکتے ہیں، نہ حرتوں کے الاوے سلگتے ہیں اور نہ ہی اسے گوناگوں تم کی محرومیوں اور دل سکھیوں کے اس کرب سے سابقہ پیش آتا ہے جو بیما و قات اخلاقی ذہنی کا سبب بناتا ہے اور اگر شدت اختیار کر جائے تو خود کشی تک پہنچ ہو جاتی ہے۔

۲۔ اللہ اور رسول کی اطاعت

اب آئیے دوسرا رخ یعنی ان افعال و اعمال کی طرف جو ہم سے صارو ہوتے ہیں اور ان میں سے بھی اصلًا ہمارے ارادے کے تابع ہیں۔ اس لئے کہ ہمارے جسم کے بستے اعضا، تو وہ ہیں جو اپنے فطری و ظائف از خود ادا کرتے رہتے ہیں اور ان کے فعل میں ہمارے شوور اور ارادے کا دخل نہیں ہوتا۔ ایسے خیر ارادی افعال کے ضمن میں، ظاہر ہے کہ ہماری کوئی اخلاقی مسئولیت نہیں ہے۔ لیکن ہماری زندگی کی اصل بیگ ڈور جن ارادی اور اختیاری افعال و اعمال سے عبارت ہے ان کے ضمن میں ایمان کا جوازی تجویز لکھنا چاہیے اس میں مقدم ترین ہے اطاعت — یعنی کہ ہمارے اعضا و جوارح سے کوئی عمل اللہ کے حکم کے خلاف صادر نہ ہو، اس لئے کہ اگر ہم اللہ پر ایمان لانے کے مدعی ہیں اور ہم نے دلی یقین کے ساتھ اللہ کو مانا ہے تو ہم پر لازم اور واجب ہے کہ ہم کوئی کام اور کوئی حرکت ایسی نہ کریں جس سے اللہ کا کوئی حکم ثوٹا ہو یا اس کی نافرمانی کا ارتکاب ہوتا ہو۔ چنانچہ ہماری زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ تکے جو اللہ کو ناپسند ہو اور ہمارے ہاتھ پاؤں کی ایسے کام کے لئے حرکت میں نہ آ جائیں جو حکم خداوندی کے خلاف ہو۔ پھر معاملہ صرف اللہ کا نہیں بلکہ اس کے رسول کا بھی ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت ہر انسان کے پاس براہ راست نہیں بھیجی۔ اس دنیا میں ہدایتِ ربیٰ کا ذریعہ رسول ہوتے ہیں، لہذا اللہ کی اطاعت اس کے رسول کے واسطے سے ہی ممکن ہے۔ چنانچہ اطاعت کے باب میں اللہ اور اس کا رسول یا ہم اس طرح جمع ہیں کویا وہ ایک وحدت ہیں۔ لہذا اگلی آیت کے پہلے حصہ میں ارشاد ہوا: ﴿لَا يَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ اور

اطاعت کرو اللہ اور اطاعت کرو (اس کے) رسول ﷺ کی" — گویا مدعیانِ ایمان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جب تم نے ماہا ہے اللہ اور اس کے رسول "کو تو اس ایمان کا لازمی تجھے یہ لکھنا چاہئے کہ تمہارے اعضا و جوارح سے جو بھی اعمال و افعال صادر ہوں، وہ سب کے سب اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کے ساتھ میں ڈھلنے ہوئے ہوں۔ یہ ایمان کا دوسرا لازمی تجھے ہے۔

اطاعت کے حکم کے ساتھ یہ تنبیہ بھی فرمادی کہ : ﴿فَإِن تَوَلُّوْا فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ "پھر اگر تم نے روگردانی کی (پیغہ موڑی)، اعراض کیا تو (جان رکھو کہ) ہمارے رسول "پر تو صرف صاف صاف پہنچادینے کی ذمہ داری ہے"۔ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی تعلیمات سے روگردانی اور ان کی مکذبی سے اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگزتا، انسان خود اپنی عاقبت خراب کرتا ہے اور آخرت میں سزا و مذاب کا مستوجب قرار پاتا ہے۔ اسی طرح رسول "پر بھی سوائے صاف صاف پہنچادینے کے اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ لہذا اگر رسول "نے اپنی یہ ذمہ داری پوری کر دی ہے تو وہ آخرت میں سرخزو ہوں گے۔ اس لئے کہ وہ تمہاری جانب سے جواب دے نہیں، تمیں اپنے اعمال و افعال کی خود جواب دی کرنی ہو گی، اپنے بھلے برے، اپنے نفع و نقصان اور اپنی کامیابی یا ناکامی کے ذمہ دار تم خود ہو گے ।

۳۔ توکل علی اللہ

ہمارے وجود سے صادر ہونے والے افعال و اعمال کا ایک دوسراء بھی ہے۔ چنانچہ اس کو بھی یہاں واضح کر دیا گیا، ارشاد ہوتا ہے : ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ "اللہ ہی ہے وہ ذات جس کے سوا کوئی معبد نہیں، لہذا اہل ایمان کو صرف اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہئے" یعنی ایمان کے تجھے میں ہمارا سارا بھروسہ، سارا بھکری، سارا اعتماد اور سارا توکل اللہ کی ذات پر ہونا چاہئے، اگرچہ ہم اس اسباب و عمل کی روایاتیں ساز و سامان اور ذرائع وسائل سے مستغنی نہیں ہو سکتے اور اپنی امکانی حد تک ہمیں اسباب بھی فراہم کرنے ہوں گے، جیسے ایک دوسرے مقام پر فرمایا :

دہاں دعوت ایمان کے چمن میں توحید و سالت پر ایمان کی دعوت صرف ایک آئت میں آگئی ہے، جبکہ ایمان بالآخرت کے لئے نہ صرف یہ کہ دو نہایت عظیم اور پُر جلال آیات کیلتا ہے، وقف ہیں بلکہ اس کا ذکر غنی طور پر توحید و سالت پر ایمان کی دعوت والی آئت کے اختتام پر بھی موجود ہے۔ اور اس کا سبب وعی ہے جس کی جانب اس سے قبل بھی اشارہ کیا جا چکا ہے، یعنی یہ کہ اگرچہ علمی اور نظری اعتبار سے اصل ایمان، ایمان بالله ہے لیکن عملی اعتبار سے سب سے زیادہ مؤثر ایمان، ایمان بالآخرت ہے۔ اس عکسی ترتیب کا ایک اضافی فائدہ یہ ہوا کہ چونکہ دوسرے رکوع میں ایمان کے عملی تقاضوں کا بیان آرہا ہے لہذا اپلے رکوع کے اختتام پر ایمان بالآخرت کی نہایت مؤثر تاکید اس کے لئے حد درج مناسب ترمید بن گنی ا।

ایمان کے پانچ بنیادی لوازم

اب ہم اللہ کے نام سے دوسرے رکوع کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ یہ رکوع آٹھ آیات پر مشتمل ہے، جن میں سے پہلی پانچ آیات میں ایمان کے پانچ بنیادی بنائج کا ذکر ہے اور بقیہ تین آیات میں ان عملی تقاضوں کو بالفعل ادا کرنے کی تاکیدی دعوت۔ لہذا اپلے ہم ابتدائی پانچ آیات کا مطالعہ کرتے ہیں، جن کا متن اور سلیں درواں ترجیح حسب ذیل ہے:

﴿مَا أَصَابَ رِبْنَةً مِّنْ مُّصِيبَةٍ إِلَّا يَأْذِنُ اللَّهُ، وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ
يَهْدِ قَلْبَهُ، وَاللَّهُ يُكْلِلُ شَيْءًا عَلَيْهِمْ ۝ وَأَطِيعُوا اللَّهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، فَإِنْ تَوَلَّْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا
الْبَلْغُ الْمُبِينُ ۝ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ
الْمُؤْمِنُونَ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ
وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ، وَإِنْ تَعْفُوا
وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ إِنَّمَا
أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۝﴾

(آیات ۱۴-۱۵)

”فِي نَارٍ هُوَقَى كُوْنَى مَعْبُوتَ كُرْمَشَدَ كَيْ لَهْجَاتَ سَے اور جو کوئی ملش پر
ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے“ اور اللہ ہر حیر کا علم رکھنے والا
ہے۔ اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول ﷺ کی۔ پھر اگر
تم نے روگردانی کی وجہ اور کھوکھ ہمارے رسول پر تو صرف صاف پہنچادینے
کی ذمہ داری ہے۔ اللہ وہ ہستی ہے جس کے سوا کوئی مجبود نہیں ہے۔ پس اپنی
ایمان کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہئے۔ اے اہل ایمان! تمہاری بیویوں اور تمہاری
اولادیں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، پس ان سے بچ کر رہو، اور اگر تم محاف کر
دیا کرو اور جسم پوشی سے کام لو اور بخش دیا کرو تو بے شک اللہ ہمیں بخشے والا، رحم
فرمائے والا ہے۔ بلاشبہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد (تمہارے حق میں) افسوس ہیں،
اور اصل اجرۃ اللہ ہی کے پاس ہے۔“

جیسا کہ اس سے قبل عرض کیا جا چکا ہے کہ اس سورہ مبارک کے دو سرے روکوں میں
جو آیات شامل ہیں ان میں نہایت جاسیت کے ساتھ ایمان کے متفقینات و متفقینات،
ضرررات و مقدرات، اور ثمرات و نتائج کا ذکر ہے۔ گویا ان ضرررات کو کھو لا گیا ہے جو
”ایمان“ میں بالکل اسی طرح مخفی ہیں جیسے آم کی تکھلی میں آم کا پورا درخت یا القوہ
(in potential) موجود ہوتا ہے، اس لئے کہ ”ایمان“ ایک خاص با بعد الطیعیاتی فکر کا
عنوان ہے جس سے انسان کا ایک خاص زاویہ نظر بناتا چاہئے اور انسان کے انداز فکر میں
ایک مخصوص تبدیلی پیدا ہونی چاہئے، اور زاویہ نٹاہ اور طرز فکر کی اس تبدیلی کے نتیجے میں
اس کی پوری زندگی میں ایک انقلاب آ جانا چاہئے۔ اگر یہ انقلاب بالفعل رونما نہیں ہوتا تو
اس کا صاف مطلب یہ ہو گا کہ ابھی ایمان کا اقرار صرف نوک زبان تک محدود ہے اور اس
نے انسان کی فکر میں جزوی نہیں پکڑیں۔ اس بات کو اس مثال سے نہایت آسانی کے ساتھ
سمجا گا سکتا ہے کہ ایک تو ایسا نہ مذکور درخت ہوتا ہے جس میں نہ پہنچتے ہیں، نہ پھول نہ
پھل۔ اور ایک ایسا سر بیزو شاداب اور بار آور مُسْخُر درخت ہوتا ہے جس میں خوبصورت
پتے بھلی ہیں اور حسکن و لفربی پھول یا پٹھنے اور فرحت بخش پھل بھی۔ تو ”معاذ اللہ“ ایمان
حقیقی کسی نہ مذکور درخت کے مانند نہیں ہوتا بلکہ ایک سر بیزو شاداب اور مشرو بار آور
درخت کے مشابہ ہوتا ہے۔ چنانچہ جب ایمان اقرارِ بِاللّٰسَان سے آگے بڑھ کر

تصدیق بالقلب کی صورت اختیار کرتا ہے اور دل میں راجح ہو جاتا ہے گویا جب انسان کا باطن نورِ ایمان سے منور ہو جاتا ہے تو اس کے اثرات اور اس کے ثمرات و نتائج انسانی شخصیت میں لازماً ظاہر ہوتے ہیں۔

اس بات کو یوں کہہ لیجئے کہ اگر کوئی شخص سليم النظرت ہے گویا اس کے قلب کی زمین صالح ہے، توجب اس میں ایمان کا صحیح جنم اور پھوٹا اور نشوونما پاتا ہے تو وہ رفتار فتنہ ایک تناور درخت کی شکل اختیار کرتا ہے۔ اس درخت میں خوبصورت پیچھی لکھتے ہیں اور حسین و جیل پھول بھی، جو وقت آنے پر خوش ذائقہ اور رسیلے پھلوں کی صورت اختیار کرتے ہیں۔ ایمان کے اس شجرہ طیبہ پر جن ثمراتِ طیبات کاظمہ ہوتا ہے ان میں سے پانچ کا ذکر ان پانچ آیات میں ہے۔ یعنی (۱) تسلیم و رضا (۲) اطاعت و انتیار (۳) توکل و اعتماد (۴) ان خطرات سے منبہ اور چوکس و چوکنارہناب جو علاقی دنیوی خصوصاً یوں یوں اور اولاد کی فطری محبت کے پردے میں انسان کے دین و ایمان اور آخرت و مقابہ کے لئے بالقوہ مضر ہوتے ہیں، اور (۵) مال و اولاد کے بارے میں آگاہ رہنا کہ یہ امتحان اور آزمائش کے ذرائع ہیں।

الفرض اگر کسی انسان کے دل میں ایمان حقیقی راجح ہو جائے اور اس سے اس کا باطن منور ہو جائے تو اس کے نتیجے میں اس کی پوری شخصیت میں ایک تغیر اور انقلاب واقع ہو جاتا ہے، جیسا کہ علامہ اقبال نے فرمایا۔

چوں بجائ در رفت جاں دیگر شود

جاں چوں دیگر شد جماں دیگر شود

حضرت علامہ نے تو یہ بات قرآن مجید کے بارے میں کہی ہے، لیکن چوں کہ قرآن منیع ایمان ہے لذا اسکی بات ایمان کے بارے میں کہی جائیکی ہے کہ جب ایمان انسان کے باطن میں سراءست کر جاتا ہے تو اس کے باطن میں ایک انقلاب آ جاتا ہے، اس کی سوچ بدلت جاتی ہے، اس کا نقطہ نظر تبدیل ہو جاتا ہے، اس کا زاویہ نہاد بدلت جاتا ہے، اس کی اقدار تبدیل ہو جاتی ہے، ہیں۔ الفرض اس کی پوری سیرت و شخصیت، اس کا ہر فعل و عمل، اس کی پسند و ناپسند کا معیار

اور اس کی سی و جو مدد کار خوب بدل کر رہ جاتے ہیں اور فی الواقع ایک بالکل نیا انسان وجود میں آ جاتا ہے۔ علامہ اقبال کے مجموعہ بالاشعر کا دوسرا مصروفہ بست متن خیز پلکہ ذہنی ہے، اس لئے کہ اس میں جہاں ایک جانب اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ جب انسان میں یہ بالطفی تبدیلی آ جاتی ہے تو اس کے لئے تو کل جہاں ہی تبدیل ہو جاتا ہے، وہاں اس عظیم حقیقت کی جانب بھی راہنمائی موجود ہے کہ افرادِ نوعِ انسانی کا یہ بالطفی انقلاب ہی ایک عالی انقلاب کا پیش خیزہ بتتا ہے ।

سورۃ التغابن کی جو پانچ آیات اس وقت زیر مطالعہ ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے نہایت مبخر نہما اسلوب میں ان پانچ بنیادی تبدیلیوں کی شاندی کر دی ہے جو ایمان کے نتیجے میں انسان کے نقطہ نظر، اس کے انداز گلر اور اس کے عملی روئیے اور روشن میں نمایاں اور ظاہر ہو جانی چاہئیں۔ اس طرح ان آیات کے ذریعے ہمیں ایک کوئی سیاہ ہو جاتی ہے جس پر اپنے ایمان کو پر کھ سکیں۔ چنانچہ اگر یہ اثرات و شرات ہماری شخصیتوں میں ظاہر ہو گئے ہوں تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے کہ ایمان حقیقی کا نور ہمارے دلوں میں موجود ہے، اور اگر یہ ظاہر نہیں ہو رہے ہیں تو ٹوکریا یہ ایک تنبیہ ہے کہ ہمیں سوچنا چاہئے کہ ہم کہیں ایمان حقیقی کی روشنی سے محروم تو نہیں ہیں ।

ایمان کے پانچ اساسی شرات کا بیان ان آیات مبارکہ میں جس حکیماتہ ترتیب کے ساتھ ہوا ہے اس کے صحیح فہم و شور کے لئے پہلے اس حقیقت کو ذہن نشین کر لیں کہ اولاً ہر انسان اپنی انفرادی حیثیت میں انسانی معاشرے کی مکمل اکائی کا درجہ رکھتا ہے، اور ثانیاً اس کا اپنے معاشرے اور ماحول کے ساتھ گمراہ بند و تعلق ہوتا ہے۔ پھر ایک فرد کی حیثیت سے بھی انسان کی شخصیت کے دروخیز ہیں۔ یعنی ایک تو وہ خارجی حالات و واقعات اور تغیرات و حوادث ہیں جو اس پر اثر انداز ہوتے ہیں اور دوسرے وہ افعال و اعمال ہیں جو اس کے اعضا و جوارح اور فی الجملہ پورے وجود سے "صادر" ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہر فرد اپنے گردو پیش اور معاشرے و ماحول سے دو قسم کے بندھنوں میں بندھا ہوا ہے، ایک علاقتی دنیوی، اور دوسرے مال و اسبابِ دنیوی، جنہیں علامہ اقبال مرحوم نے نہایت خوبصورتی سے اس شعر میں مسودہ دیا ہے کہ۔

﴿وَأَعِدُّوا لِهُم مَا أَسْتَطَعْنَا مِنْ فُرَّوْةٍ وَمِنْ رِبَابِطِ الْخَيْلِ...﴾ یعنی "اپنے دشمن کے مقابلہ کے لئے تیاری کرو اور مقدور بھروسہ ساز و سامان فراہم کر کتے ہو فراہم کرو" (سورۃ الاغال : ۶۰) اور جیسے حضور ﷺ نے تعلیم دی کہ "پہلے اونٹ کو باندھو، پھر اللہ پر بھروسہ کرو" جس کی بہترین ترجیحی مولانا روم نے اس مصروف میں فرمائی ہے طریقہ بر توکل زانوئے اشتیریہ بندا "چنانچہ اپنی استطاعت کے مطابق دنیوی اور مادی اسباب اور ساز و سامان فراہم کرنا ایمان کے منافی نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ خیال ہو گیا کہ مجرد ان اسباب و وسائل اور ساز و سامان سے کام ہو جائے گا، گویا اصل بھروسہ "اعناد اور عکیبہ اپنی محنت" اپنی تیاری اور اپنے ساز و سامان پر کیا اور اصل توکل مادی اسباب و وسائل پر کیا تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ اللہ کی ذات سے ہماری نہایں ہٹ گئیں اور ہم اس سے مجبوب ہو گئے، اس کی کمال ندرت کا تین دل میں قائم نہیں رہا۔ حاصل کلام یہ کہ اس عالم انساب میں محنت و کوشش اپنی جگہ ضروری ہے اور امکانی حد تک اسباب و وسائل کی فراہمی اور ان کا استعمال بھی لازمی ہے، لیکن توکل صرف اور صرف اللہ کی ذات پر ہو گا۔ ان تین آیات مبارکہ میں انفرادی سطح پر ایمان کے ثرات و تنائی کا بیان مکمل ہو گیا۔

۳۔ طبعی محبتتوں کے ضمن میں احتیاط

انسان اس دنیا میں تھانیں رہتا۔ مد نیت اس کی جلت اور طبیعت میں رچی بسی ہے۔ قیادوں اس دنیا میں بست سے تعلقات میں جگڑا ہوا ہے جن کے کئی دائرے ہیں۔ ایک دائرہ اس کے والدین، بھائیں اور بیوی بیویوں کا ہے۔ دوسرے دائرے میں رشد دار اور اعززہ واقارب ہیں۔ پھر کنبے اور قیلے کا دائرہ اور اس کے بعد قوم کا دائرہ ہے اور بالآخر یہ سلسلہ پوری نوع انسانی تک پھیل جاتا ہے۔ ان سب کو ایک لفظ میں جمع کیا جائے تو وہ ہے "علائق دنیوی"۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں تمدن و تذییب کی گاڑی کو چلانے کے لئے ان علاائق دنیوی کے ضمن میں بستی فطری محبتیں انسان کے دل میں ڈال دی ہیں۔ انسان کو والدین، بہنوں اور بھائیوں، بیوی، اولاد اور رشد داروں سے محبت ہوتی ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان محبتتوں میں سب سے زیادہ قوی محبت بیویوں اور اولاد کی محبت ہے۔ اس طبعی

مبت کی طرف اگلی آیت نہیں تنبہ فرمایا گیا کہ اگر اس میں حدِ اعتدال سے تجاوز ہو جائے تو یہی مبت انسان کے لئے دخنی کاروپ دھار لے گی۔ لہذا اس کے ضمن میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ ارشاد ہوتا ہے : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ آزُواجِكُمْ وَأُولَادَ كُمْ عَذُولَاتٌ كُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ﴾ "اے اہل ایمان! تمہاری یو یوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، پس ان سے ہوشیار رہو" ۔۔۔ یہ احتجاج اس لئے ضروری ہے کہ فی الواقع ان محیتوں میں انسان کے لئے بالقوہ خطرہ موجود ہے، اس لئے کہ اگر آخرت نہ ہوتی اور حساب کتاب نہ ہوتا اور کوئی جواب دی نہ ہوتی تب تو کوئی تشویش کی بات نہ ہوتی۔ اس صورت میں تو انسان کو کھلی چیزیں ہوتی کہ یو یوں کی فرمائشیں پوری کرے، خواہ حلال سے کرے، خواہ حرام سے کرے، اولاد کو اچھے سے اچھا کھلانے اور پہنچائے اور ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلانے کی فکر کرے، چاہے جائز ذرائع آمدی سے ہو، چاہے ناجائز آمدی سے ہو ۔۔۔ لیکن جب یہ حقیقت مانے آچکی ہے کہ یہ زندگی تو بست عارضی اور محقرہ ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے جسے کبھی ختم نہیں ہونا اور اصل فیصلے کا دن تو قیامت کا دن ہے لیکن وہی ہے ہمار اور جیت کے فیصلے کا دن ابھی اگر اس حقیقت کے جانے کے بعد بھی تم نے اپنی یو یوں اور اولاد کی مبت سے مغلوب ہو کر اور ان کی خوشنودی کی خاطر اللہ کی حرام کر دھیزوں میں مندارا، ناجائز آمدینوں کا رجیکا اور ان کو بیش کرانے اور ان کی فرمائشیں پوری کرنے کے لئے تم نے حلال و حرام کی تیزی کو ختم کر دیا اور جائز و ناجائز کا خیال نہ رکھا تو جان لو کہ یہ تمہارے حق میں مبت نہیں، دشمنی ہے، اور اگر تم میطاط، چوکس اور چوکتے نہ رہے تو یہی ہے جامبعت اور لاذیپار تمہاری عاقبت کی برپا دی کا سبب ہے جائے گا۔ چنانچہ نبی اکرم ﷺ کا ارشاد مبارک ہے کہ "بیانی نادان ہے وہ شخص جس نے دوسروں کی دنیا ہانے کے لئے اپنی عاقبت بتاہ و برپا دکری۔"

آیت کے دوسرے حصے میں ارشاد ہوتا ہے : ﴿ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ "اور اگر تم معاف کر دیا کرو اور چشم پوشی سے کام نہ اور بخش دیا کرو تو یہ بھگ اللہ بھی بخشنا والار تم کرنے والا ہے" ۔۔۔ آیت کے اس حصے میں جماں فصاحت و بلافافت کا کمال مانے آتا ہے وہاں صحیح اور معتدل روایتی

اختیار کرنے کی نہایت پر زور اور مدد لیل دعوت بھی سامنے آتی ہے۔ چنانچہ جہاں اس پر زور دیا گیا کہ کہ تمہاری بیویوں اور اولاد میں تمہارے حق میں بالتوہہ دشمن ہیں لہذا اپنا تحفظ کرو کہ کہیں ان کی محبت تمہیں جادہ حق سے مخرف نہ کر دے اور تمہاری عاقبت تباہ نہ کر دے، وہاں دوسری طرف اس کو متوازن کیا گیا کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے مزاج میں خشونت، درشتی اور بختی کا غلبہ ہو جائے اور گھر میدانِ جنگ کامال پیش کرنے لگے، اور محبت، شفقت اور نری کا ظہور بالکل نہ ہو۔ لہذا اس اعتبار سے تو ضرور چوکس اور چوکنار ہو کہ ان کی محبت کہیں غفلت میں تم سے دین کے خلاف کوئی کام نہ کرائے۔ لیکن ان کی صحیح تربیت کے لئے محبت، شفقت اور نری لازمی ہے، لہذا انہوں نے اور رگزربھی ضروری ہے اے

یہاں غور کیجئے کہ اس غنودرگزر کے لئے دلیل کیا دی جا رہی ہے اور پھر اس میں کتنی مؤثر اپیل مضر ہے! یعنی یہ کہ اللہ بھی تو غنور اور رحیم ہے، "زرا سوچو کہ اللہ نے تم کو کتنی ذہلی دے رکھی ہے۔ اپنے باطن میں جھانک کر دیکھو کہ کتنے مفاسد لئے پھر رہے ہو، لیکن اللہ پھر بھی چشم پوشی کئے ہوئے ہے اور تمہیں ملت دے رہا ہے اور اس کی ربویت اور جو دو سخا کا سلسلہ جا رہی ہے۔ لہذا تم کو بھی چاہئے کہ اپنی بیویوں اور اولاد کے لئے بھی روئیے اختیار کرو۔

میرے نزدیک یہ آیت قرآن حکیم کے ان خاص مقولات میں سے ہے جہاں زہن انسانی بے اختیار یہ بات تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کے سوا کسی اور کلام نہیں ہو سکتا، اس لئے کہ یہ توازن اور اعتدال صرف اللہ ہی کے کلام میں ممکن ہے۔ — الفرض یہ آیت مبارک جملہ علاقیٰ دنیوی کے ضمن میں ایک بندہ مومن کے زاویہ ٹکاہ اور اندازِ فکر کے ساتھ اس کے عملی ردیے کو بھی تینکری کرتی ہے۔ اس لئے کہ جب محبوب ترین علاقیٰ کے ضمن میں بدایت مل گئی تو علاقیٰ دنیوی کے دوسرا دائرے تو بھر حال ان کے مقابلے میں ٹالوی حیثیت کے حال ہیں۔

۵۔ مال اور اولاد فتنہ ہیں!

اس دنیا میں علاقیٰ دنیوی کے ساتھ جس دوسری چیز سے انسان بندھا ہوا ہے وہ مال و

اسبابِ دنبوی ہیں جن سے انسان کی حیاتِ دنبوی کی ضروریات پوری ہوتی ہیں، مگر وجه ہے کہ قرآن حکیم میں ایک دوسرے مقام پر (سورۃ النساء : ۵) انہیں حیاتِ دنبوی کے بقاء اور قیام کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ لہذا ان سے ایک طبی اور قدرتی لگاؤ بھی انسان کی جلت کا بجز و لائیٹ ہے۔ لیکن اگر اس طبی لگاؤ میں شدت پیدا ہو جائے اور یہ چیزیں فیض محبوب اور مطلوب و مقصود ہن جائیں تو آخرت اور عاقبت کے اعتبار سے ان سے زیادہ مضر ہو رہا ہے کن اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ پھر اپنے دنبوی مستقبل کے لئے انسان جس طرح پس انداز اور جمع شدہ مال پر تکمیل کرتا ہے ایسے ہی اولاد سے بھی امیدیں لگاتا ہے۔ لہذا اس مقام پر مال کے ساتھ اولاد کا ذکر دوبارہ کرو دیا گیا کہ ہوشیار رہو کہ ان دونوں کی محبت تمہارے حق میں فتنہ ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے : ﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَآوَالُدُّجَمْ رِفْتَنَةٌ﴾ "بلاشہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے حق میں فتنہ ہیں"۔ فتنہ کے لغوی معنی "کسوٹی" کے ہیں۔ یعنی وہ چیز جس پر پوکہ کرو کر دیکھا جاتا ہے کہ سونا خالص ہے یا اس میں کھوٹ اور طاوت ہے۔ چنانچہ اہل ایمان کو بتایا جا رہا ہے کہ اس دنیا میں مال اور اولاد تمہارے لئے کسوٹی ہیں، یعنی تمہاری آزمائش کا ذریعہ ہیں اور ان پر تم کو پر کھا جا رہا ہے کہ کہیں تم ان کی محبت سے مغلوب ہو کر اللہ کو بھول تو نہیں جاتے اور اس کے اوپر نواہی سے بے پرواہ کر اپنی عاقبت تو خراب نہیں کر لیتے۔

اس آیت کا اختتام ان الفاظ مبارکہ پر ہوتا ہے : ﴿وَاللَّهُ عَنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ "اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اجر عظیم"۔ گویا امیدیں وابستہ کرنی ہیں تو اللہ سے کرو، امیدوں کو بر لانے والا تو قوات کو پورا کرنے والا اور تمہاری محنت کی صحیح اجرت دینے والا تو حقیقت میں صرف اللہ ہی ہے۔ لہذا اپنی ذاتی ملاصیتوں اور قتوں کے علاوہ اپنے مال اور اپنی اولاد کو بھی اسی کی راہ میں لگاؤ۔ عام طور پر انسان کی تمام توانائیاں اور اس کا گل و قوت یا زیادہ سے زیادہ مال و دولت جمع کرنے کی خاطر صرف ہوتا ہے یا اولاد پر صرف ہو جاتا ہے، اور انسان تو قع کرتا ہے کہ اولاد اس کے بڑھاپے کا سارا بنتے گی۔ جبکہ ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان مال و اسبابِ دنبوی کو صرف حیاتِ دنبوی کی ضروریات پوری کرنے کا ذریعہ سمجھے اور اس سے دلی محبت نہ رکھے اور اولاد کی پرورش اور تعلیم و تربیت کو

بھی اللہ کی طرف سے عائد شدہ ذمہ داری کی حیثیت سے ادا کرے، نہ کہ طبعی محبت کی بنیاد پر، یا اسے اپنے مستقبل اور بیرونی اچھائی کا سامارا سمجھ کر — اور اپنی سی و جد کا اصل مطلوب و مقصود اللہ کی رضا جوئی اور آخرت کی فلاح کو قرار دے۔

ایمان کے عملی تقاضے

اب ہم اللہ کے نام سے سورۃ العقاب کی آخری تین آیات پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ اس سورۃ مبارک کے بارے میں یہ تاثر اس سے قبل یا ان کیا جا چکا ہے کہ یہ "ایمان اور اس کے ثمرات و مقتنيات" کے موضوع پر قرآن مجید کی جامع ترین سورت ہے۔ اس سورت کے مضامین کی ترتیب اس اثمار سے بڑی حسین ہے کہ اس کے پہلے روئے میں ایمان کے تینوں اجزاء (ایمان باللہ، ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرت) کی نہایت جامع وضاحت اور ان پر ایمان لانے اور انہیں حرم جان بنانے کی زور داد دعوت ہے۔

دوسرے روئے آخر آیات پر مشتمل ہے۔ ان میں سے پانچ آیات کا مطابق ہم کرچکے ہیں۔ ان میں ایمان کے ثمرات اور مضرات کا نامیت جامع بیان ہارتے سامنے آپ کا ہے۔ اس کے بعد تین آیات جن پر یہ سورۃ مبارک کامل ہوتی ہے ایمان کے عملی تقاضوں کو بالتفصیل ادا کرنے کی دعوت پر مشتمل ہیں؛ جنہیں تین اہم اصطلاحات کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ یعنی (۱) تقویٰ (۲) کسح و طاعت اور (۳) اشاق فی سبیل اللہ اور اللہ کو قرغش حسنہ دینا۔ آخر میں مضمون کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ کی چند صفات کمال اور امامے حسنی کا بیان ہے۔ تو آئیے کہ پہلے ان آیات کا روایتی ترجمہ ذہن نشین کریں۔

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا أَسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِبِّعُوا وَأَنْفِقُوا
خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَنُ بِمُحَاجَةٍ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ ۝ إِنَّ تُفَرِّضُوا اللَّهَ قُرْضاً حَسْنًا بِظَفِيفَةٍ
لَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ۝ عِلْمُ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝﴾ (آیات ۱۶-۱۸)

"ہیں اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جتنا تمہارے امکان میں ہو اور سنوار اطاعت کرو اور

خیج کرو، یعنی تمہارے حق میں بستہ ہے اور جو کوئی اپنے گی کے لائج سے بچالا گیا تو
وی ہوں گے جو آخری منزل مراد کو ہبھی سکس گے۔ اگر تم اللہ کو قرعہ حسن دو تو وہ
اسے تمہارے لئے دو گناہ کرتا ہے گا اور تمہاری بخشش فرمائے گا اور اللہ قد روان
بھی ہے اور نہایت علم والا بھی۔ وہ کھلے اور پھر سب کا جانتے والا ہے، "زیر دست"
صاحب حکمت کاملہ ۱"

جیسے اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی صفات آیات میں ایمان کے بنیادی اجزاء کا بیان تھا
اور پھر کلمہ "فَا" سے پر زور پیدا کئے میں دعوت ایمانی شروع ہوئی تھی، اسی طرح دوسرے
دکوع کی پہلی پانچ آیات میں ایمان کے ثرات و مضرات کا بیان تھا اور اب پھر کلمہ "فَا" ہی
سے دعوت عمل شروع ہوتی ہے اور اس کے ضمن میں تھوڑا سا غور کرنے پر ایک نہایت
ضمین ربط نظر آتا ہے کہ ایمانیات میں اولین ایمان ہے ایمان باللہ۔ لہذا ایمان عمل کی
دعوت اس بات سے شروع ہوتی کہ: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا أُسْتَعْصِمُ بِهِ﴾ "پس اللہ
کا تقویٰ اختیار کرو جتنا بھی تمہاری حد استطاعت میں ہے" — گویا ایمان باللہ کا عمل
تھا نہیں ہے کہ انسان میں اللہ کا تقویٰ پیدا ہو جائے اور تقویٰ بھی تھوڑا بست نہیں بلکہ
امکانی حد تک بقدر بھر۔ ایمان کے بیان میں دوسرے نمبر پر ذکر تھا ایمان بالرسالت کا،
لہذا ایمان ایمان کا دوسرا عملی تھا بیان ہوا "سم و طاعت" کے حوالے سے جس کا نقطہ
آغاز عملی اعتبار سے رسول ﷺ کی ذات و شخصیت ہے۔ آخر میں ذکر تھا ایمان
بالآخرت کا جس کا اہم ترین عملی مظرا فاق فی سبیل اللہ ہے، لہذا تمہرے نمبر پر ذکر ہوا اتفاق
اور اللہ کو قرعہ حسن دینے کا

۱۔ تقویٰ

عام طور پر "تقویٰ" کا ترجمہ "خوف" یا "ڈر" کے الفاظ سے کر دیا جاتا ہے، حالانکہ
یہ "تقویٰ" کے معنی و مفہوم کی صبح اور کامل ترجمانی نہیں ہے۔ ڈریا خوف ایک تو ہوتا ہے
کسی خطرناک خوفناک اور ڈراؤنی شے کا، تقویٰ سے یہ ڈر مراد نہیں۔ ایک خوف اور ڈر
وہ ہوتا ہے جس میں محبت کی آمیزش اور چاشنی بھی موجود ہوتی ہے، یعنی محبت بھرنا خوف۔
یہ خوف تقویٰ کی کسی حد تک صبح ترجمانی ہے۔ بفرض تفہیم مثال پیش خدمت ہے کہ جیسے

آپ کو اپنے والد سے محبت ہے اور آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے والد آپ سے ناراضی ہوں یا آپ کے کسی کام سے ان کی دل ٹکنی ہو یا ان کے جذبات کو نہیں پہنچے۔ اس کا مطلب تبیح یہ لکھتا ہے کہ آپ کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو آپ کے والد کو ناپسند ہو۔ گویا آپ اپنے والد کی ناراضی کے خوف سے جوان کاموں کے ارثا کا سے احتراز کرتے ہیں جو انہیں ناپسند ہوں۔ پس آپ کے اس محبت بھرے خوف کو "تفویٰ" سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ گویا اللہ کا تفویٰ یہ ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی میں پھونک پھونک کر قدم رکھے اور اس کے قلب اور ذہن پر ہر وقت یہ خیال مستولی رہے کہ میرے کسی قول اور میرے کسی عمل سے میرا غالق و مالک مجھ سے ناراض نہ ہو جائے اور اسے ہر وقت یہ فکر دامن گیر رہے کہ کوئی ایسا کام نہ کر جیوں تو میرے رب کو ناپسند نہ ہو۔ یہ کیفیت یہ طرز عمل یہ روایہ اور یہ انداز فکر تفویٰ کی اصل حقیقت ہے!

قرآن عکیم میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر ۲۰۲ میں تفویٰ کے معنی میں یہ شدید تأکید ہے کہ : ﴿إِنَّمَا أَنْهَاكُمُ الْأَذِيَّنَ أَمْتَوْا أَنْشُوَا اللَّهُ أَعْلَمُ بِنُقَاحِتِهِ...﴾ یعنی "اے اہل ایمان اللہ کا تفویٰ اختیار کرو جتنا کہ اس کے تفویٰ کا حق ہے" — روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس پر صحابہ کرام ﷺ بڑے ہی مضطرب اور پریشان ہو گئے تھے کہ اللہ کا اتنا تفویٰ جتنا اس کا حق ہے، کون اختیار کر سکتا ہے!! بالکل ایسے جیسے کہ اللہ کی اتنی معرفت حاصل کرنا بھتی کہ اس کا حق یہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ چنانچہ رسول کامل اور عارف اعظم حضرت مسیح رسول اللہ ﷺ خود فرماتے ہیں :

"مَاعْبَدُنَا كَهْ حَقَّ عِبَادَتِكَ وَمَا عَرَفْنَا كَهْ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ" یعنی "(اے اللہ) ہم تم تیری بندگی نہ کر پائے جیسا کہ تم تیری بندگی کا حق ہے، اور ہم تجھے پہچان نہ سکے جیسا کہ تجھے پہچانے کا حق ہے۔ تو اگرچہ آنحضرتؐ کے بارے میں تو یہی گمان ہے کہ یہ کلمات آپؐ نے بربانے تواضع ارشاد فرمائے، لیکن کسی بھی دوسرے انسان کے بارے میں تو اس میں کسی شک و شبہ کی مخالفش نہیں ہے کہ اللہ کی "کما حقہ" معرفت کا حصول اس کے دائرہ اختیار اور حد امکان سے خارج ہے ایسی معاملہ تفویٰ کا ہے۔ اللہ کا اتنا تفویٰ جتنا

اس کے تقویٰ کا حق ہے، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اس لئے کہ اس کا تقاضا تو یہ ہو گا کہ ہم ایک لمحے کے لئے بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوں، اور ہر وقت شوری طور پر چونکا اور چوں کس رہیں کہ ہمارے اعضاء و جوارح سے کہیں اور کبھی کوئی الی حرکت صادر نہ ہونے پائے جو اللہ کے کسی حکم یا فتناء کے خلاف ہو۔ لہذا اس پر صحابہ کی تشویش بالکل بجا تھی۔ البتہ جب سورۃ التغابن کی یہ آیت نازل ہوئی کہ ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا أَسْتَطِعْتُمْ﴾ "پس اللہ کا تقویٰ اقتیار کرو جتنا تمہارے امکان اور حدِ استطاعت میں ہے" تب صحابہ کرامؓ کو تسلیم حاصل ہوئی ہے۔

واضح رہے کہ بھی بات سورۃ البقرہ میں بھی ایک قاعدہ کلیے کے طور پر وارد ہوئی ہے کہ ﴿لَا يَنْكِلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ "اللہ کسی نفس کو ملکت نہیں نہراہا تک اس کی وسعت کے مطابق"۔ اور بھی اصول سورۃ المونون میں بھی وارد ہوا ہے کہ : ﴿لَا يَنْكِلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ "اور ہم کسی نفس کو ملکت نہیں نہراہتے مگر اس کی وسعت کے مطابق"۔ البتہ اس مقام پر تھوڑا سا توقف کر کے استطاعت، استعداد اور وسعت کے بارے میں ایک اصولی بات سمجھ لئی چاہئے اور وہ یہ کہ کسی انسان میں کتنی استطاعت، استعداد اور وسعت و طاقت ہے جس کے مطابق وہ ملکت اور جوابدہ ہے، اس کا صحیح شعور و ادراک بسا اوقات اسے خود نہیں ہوتا۔ بنا بریں وہ اپنے آپ کو دین کے عمل شاقوں کے عین میں رعایتیں دیتا چلا جاتا ہے اور دین کی جانب سے عائد ہونے والی مشکل اور کٹھن ذمہ داریوں سے خود کو بالکل ہی بری نہراہیتا ہے۔ حالانکہ اللہ جو ناطرِ فطرت ہے، انسان کا خالق ہے اور اس کا علم کامل ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ اس نے اس میں کتنی استطاعت، استعداد اور وسعت رکھی ہے۔ چنانچہ وہ ہر انسان کا اسی کے مطابق معاہدہ اور اور موافذہ فرمائے گا۔ بلکہ اس معاملے میں واقعہ یہ ہے کہ ہم طریقہ "دیوانہ بکار خویش پیشہ" کے مدد اور اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں کہ جب دین اور تنگی کے کام کی بات ہوتی ہے یا تبلیغ و دعوت کی بات ہوتی ہے یا دین کے دوسراے عملی شاخصے اور مطالبے ادا کرنے کی بات ہوتی ہے تو ہم عذر پیش کر دیتے ہیں کہ ہم میں اس کی استطاعت، استعداد

نہیں ہے۔ جبکہ دنیا کے معاملات میں ہماری جوانیاں انگرمن الشیس ہوتی ہیں اور ہماری تو ابتو یوں ہماری تک و دو اور ہماری الہیت و ملاحیت کا تجھ بھر پر طور پر سامنے آ رہا ہوتا ہے۔ حقیقت میں یہ ایک فریب ہے جو انسان اپنے آپ کو دیتا ہے۔ اس لئے کہ اگر ایک شخص دنیا میں پھل پھول رہا ہے، اس کے جو ہر نمایاں ہو رہے ہیں اور وہ دنخی امور میں دوسروں سے آگے نکل رہا ہے اور ترقی پر ترقی کرتا چلا جا رہا ہے تو یہ استطاعت و استعداد کے بغیر عکن نہیں ہے۔ لامحالہ اس میں ذہانت، ملاحیت، قوت، کار و سعت عمل اور جذبہ، محنت و مسابقت موجود ہے، تب ہی تو وہ آگے سے آگے نکلا جا رہا ہے۔ لذا صحیح روشن اور درست روایت یہ ہو گا کہ یہ تو تقویٰ کے تقاضوں اور دینی ذہن دار یوں کی ادائیگی کے ضمن میں آگے بڑھنے کی شعوری طور پر اور امکان بھر کو شش کی جائے اور اس میں کوئی وقیفہ فروگذشت نہ رہنے دیا جائے اور اپنی امکانی حد تک نہ کوئی تسلیم ہو اور نہ ہی کسی فراری ذہنیت کو بروئے کار آنے دیا جائے۔ البتہ یہ بات بالکل ظاہر بہار ہے کہ اس سب کے باوجود انسان اتنا ہی آگے بڑھ کے گا جتنی اللہ تعالیٰ نے اس میں استطاعت و سمعت رکھی ہے، اگرچہ جب تک انسان اس کے لئے شعوری طور پر عزمِ مصمم کے ساتھ کوشش نہیں کرے گا اس وقت تک یہ ظاہری نہیں ہو سکے گا کہ اس میں و سمعت، ملاحیت اور استطاعت کتنی ہے ارہا ہا کہ اخروی کا معاملہ تو وہ یقیناً ہر شخص کی و سمعت و استطاعت کی بندادی پر ہو گا جس کا صحیح علم اللہ کو حاصل ہے۔ چنانچہ وہ اسی کے مطابق فیصلہ فرمائے گا کہ کسی شخص نے اس و سمعت و استعداد کے مطابق جو اسے دی گئی تھی دین کے تلقینیات و مطالبات پورے کرنے کی کس حد تک محنت اور کوشش کی۔

تقویٰ کے مفہوم کی بہترین تعبیر کے ضمن میں دور خلافت فاروقیؓ کا ایک برا عجیب واقعہ ملتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک بار اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم کی محفل میں یہ سوال کیا کہ ”تقویٰ“ کی جامع و مانع تعریف کیا ہے؟ اس کے جواب میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے جو وضاحت پیش فرمائی اس کا مفہوم یہ ہے کہ :

”امیر المؤمنین اجب کسی شخص کو جنگل کی ایسی پنڈتی سے گزرنے کا اتفاق ہو“

جس کے دونوں اطراف میں خاردار جہاڑیاں ہوں تو اسی گذشتہ پر گزرتے وقت وہ شخص لا محالہ اپنے کپڑوں کو ہر طرف سے سمیت کر اس راستے کو اس طرح ملے کرنے کی کوشش کرتا ہے اور سبھل سبھل کر پھونک پھونک کر قدم اٹھاتا ہے کہ اس کے کپڑے جہاڑیوں اور کاٹوں سے الجھٹے نہ پائیں۔ اس احتیاطی روئیے اور سچنے کر چلنے کو "تقویٰ" کہتے ہیں۔"

"فاروقِ اعلم" نے اس تعریف کی تصویب و توثیق فرمائی اور حضرت اُبی بن کعب کو داد دی۔ حقیقت اور امروء القسمی ہے کہ اس دنیا میں ہم ہوزندگی بسرا کر رہے ہیں یہ بھی ایک سفر ہی ہے اور یہاں ہر چہار طرف گناہ، محصیت اور شوافت ولذات کی نمایت خاردار جہاڑیاں موجود ہیں، چنانچہ ہر ہر قدم پر گناہ کی ترغیب ہے، محصیت کی تحریک ہے اور طرح طرح کے ظلم و راثم اور طفیان و عدو ان کی دعوت موجود ہے! اب اگر انسان ان جہاڑیوں سے نئے کر نکل جائے اور اپنے دامن کو ان میں الجھٹتہ دے اور اس دنیوی سفر کو اس طرح طے کرنے کی کوشش کرے کہ اس کے دامن پر محصیت کا کوئی داعی و محبہ نہ پڑنے پائے تو اس روشن، اس روئیے اور اس طرزِ عمل کو تقویٰ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایمان کا اولین تقاضا ہے!

۲۔ سمع و طاعت

تقویٰ کے تاکیدی حکم کے بعد اس آیت میں دوسری بات فرمائی : ﴿وَاسْمَعُوا وَأَطِبِّعُوا﴾ اور سنو اور اطاعت کرو۔ اس سمع و طاعت کا تعلق بھی اصلانہ ایمان باشد تھا سے ہے، لیکن عملاً اس کا تعلق ایمان بالرسالت سے ہے، اس لئے کہ اگرچہ مطابع حقیقت تو اللہ ہی ہے، مگر اللہ کا نام نہ ہے اور اس کے باذن سے بالتعلل "مطابع" بن کر رسول آتا ہے۔ جیسے سورۃ اتساء میں ارشاد فرمایا گیا : ﴿مَنْ يُطِّبِعَ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ "جس نے رسول" کی اطاعت کی درحقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی" اور ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَّاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول گر اس لئے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ رسول کی یہ اطاعت اصلانہ

مطلوب ہے "سمع و طاعت" کی شان کے ساتھ یعنی بلاچون و چرا اور بلاپس و پیش اس بات کو پورے شعور و اور اک کے ساتھ سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ ایک اطاعت توہہ ہوتی ہے جو آپ کے فم، آپ کی سمجھ اور آپ کی پسند پر محصر ہے، یعنی یہ کہ اگر کوئی حکم آپ کی سمجھ میں آبیا آپ کو پسند آگیا تو آپ نے مان لیا اور اطاعت کی روشن اختیار کر لی اور اگر وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آبیا آپ کو اچھانہ لگا تو آپ نے اطاعت نہیں کی بلکہ لاپرواںی اختیار کی۔ اس روئیتے اور طرز عمل کا تجزیہ کجھے تو یہ تنجیہ سامنے آئے گا کہ یہ اطاعت اُس بستی کی نہیں ہے جو حکم دے رہی ہے، بلکہ اپنی روح اور حقیقت کے اعتبار اور عقل و مطلق کی رو سے یہ خود اپنی سمجھ یا اپنے تمی کی اطاعت ہے، اور دونوں صورتوں میں آپ نے یا اپنی عقل کی، یا اپنے تمی کی، یا اپنی پسند کی اطاعت کی ہے۔ اللہ اور رسول ﷺ کی اطاعت تو اس شان کے ساتھ مطلوب ہے کہ جو بھی حکم ملے، اس پر سرتلیم فرم کر دیا جائے، جو فرمان بھی سامنے آئے بجالا بیجا جائے، جس چیز سے روک دیا جائے اس سے روک جایا جائے اور اگر ان اوامر دنوازی کی ٹکمیں بھی سمجھ میں آجائیں تب تو کیا ہی کہنے ہیں، یہ تو "نور علی نور" والی بات ہے، لیکن اگر کسی حکم کی غرض و نایت یا حکمت و مصلحت سمجھ میں نہ آئے تب بھی مجرد "سمع" یعنی سن لینے سے "طاعت" یعنی فرمانبرداری لازم ہے جاتی ہے!

عملی اعتبار سے اس "سمع و طاعت" کا نقطہ نظر نبی ﷺ کی ذات اور شخصیت ہے، اس لئے کہ آپؐ ہی پر وحی جلی کے ذریعے وہ حکمت عطا فرمائی گئی جس کی روشنی میں آپؐ نے اللہ کے کلام کی توضیح دیتی ہیں اپنے فرمانیں و فرمودات کے ذریعے کی۔ اور اس کا عملی نمونہ اپنی سیرت و کردار اور اپنے افعال و اعمال کے ذریعے پیش فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ انؐ کے بارے میں وضاحت کردی گئی کہ: ﴿وَمَا يُنْهِنُ عَنِ الْأَنْهَىٰ﴾ ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ اور وہ (ہمارے رسولؐ) اپنی خواہش نفس سے نہیں پولتے۔ یہ تو ایک وحی ہے جو (ان پر نازل) کی جاری ہے۔ اسی کی ترجمانی ہے فارسی کے اس شعر میں۔

مفتتُهُ أَوْ مفتتُهُ اللَّهُ بود

گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود

گویا رسول ﷺ کے احکام ان کی خواہشات پر تین نہیں ہوتے بلکہ اللہ کی وحی پر تین ہوتے ہیں۔ تمہارا افگر تمہاری عقل اور تمہاری سوچ محدود ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر حکم کی حکمت و علیٰت تمہاری سمجھ میں آجائے اور ہر حکم کی صلحت تمہارے فہم کی گرفت میں آسکے۔ لذت اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت "صح و طاعت" کی شان سے ہوگی اور عقل انسانی کو ہرگز کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ اس پر کسی حکم کی حدود و قواعد کرے۔ البتہ اللہ کے رسول ﷺ کے بعد کسی مسلمان ہمیشہ اجتماعی کے سربراہ یعنی کسی حاکم یا امیر کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ایسی مطلق اور غیر مشروط اطاعت کا مطالبہ کرے۔ چنانچہ ہر "اطاعت" کے ساتھ "نی المعرف" کی قید لازم ہے۔ یعنی اب ہر اطاعت اللہ اور رسول ﷺ کی اطاعت کے دائرے کے اندر اندر ہوگی، جیسا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا : ((الآطَاعَةُ لِمَخْلوقٍ فِي مُعْصِيَةِ الْحَالِقِ)) یعنی ٹھوٹ میں سے کسی کی بھی اطاعت کسی ایسے معاملے میں نہیں کی جاسکتی جس میں خالق کی مصیت لازم آتی ہو۔ البتہ "نی المعرف" کی پابندی اور مشاورت باہمی کا حق ادا کرنے کے بعد اسلامی معاشرے اور نیم جماعت میں درجہ بدرجہ ذیلین کی شان "صح و طاعت" والی ہوئی چاہئے تاکہ معاشرہ اور ہمیشہ اجتماعی پوری طرح منظم اور چاق و چوبندر ہے۔

انفاق فی سبیل اللہ

زیر مطالعہ آیت کی تیری اور آخری بات کا تعلق ایمان بالآخرت سے ہے۔ ارشاد

ہوتا ہے : ﴿وَأَنْفَقُوا مِنْ أَنْفُسِكُمْ﴾ "اور خرچ کرو (اللہ کی راہ میں) اسی میں تمہاری بھلائی مضر ہے۔" اللہ کی راہ میں خرچ کرنا غریاء، فقراء، مساکین اور جنایی کے لئے بھی ہے اور اللہ کے دین کے لئے بھی اس کا ایمان بالآخرت کے ساتھ یا اگر اگر لذیف تعلق ہے، اس لئے کہ جسے آخرت پر یقین حاصل ہو وہ جو مال اللہ کے لئے صرف کرے گا اس کے بارے میں اسے یہ اطمینان ہو گا کہ یہ مال محفوظ ہو گیا گویا اللہ کے بینک میں جمع ہو

گیا۔ اب یہ بات بالکل ظاہر و باہر اور حقیقتی دیکھنی ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی صلاحیتوں اور قوانین کا بیشتر اور بہتر حاصل آخرت کے بینک میں جمع کرا دیا ہو تو ایسے شخص کی کیفیت موت کے وقت بالکل وہی ہو گی جو علامہ اقبال کے اس شعر میں بیان ہوئی ہے۔

نَثَانِ مَرْدِ مُوسَمٍ بَا تَوْكِيمٍ
چُورِكَ آتِيَّهِ تَبَقْمَ بِرِ لِبِ اَوْسَتِ

یعنی مردِ موسمن کی نشانی یہ ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو اس کے لیوں پر سکراہٹ ہوتی ہے۔ اس لئے کہ اسے معلوم ہے کہ میں نے اپنے مال و دولت اور اپنی قوانین کو اور قوتوں کا بہت بڑا حصہ اللہ کے بینک میں جمع کرا رکھا ہے اور اب میں وہاں جا رہا ہوں جاں میری بچت، میری کمائی اور میری قوانین کا حاصل جمع ہے۔ انہیں اربد کے نام سے اس وقت جو کتابیں موجود ہیں، ان میں سے متی کی انجیل میں حضرت مسیح علیہ السلام کا ایک بڑا پیارا قول ملتا ہے کہ "اپنا مال زمین پر جمع نہ کرو، جہاں کیڑا بھی خراب کرتا ہے اور چوری۔ ڈاکے کا بھی خوف ہے بلکہ آسمان پر جمع کرو جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے، نہ چوری کا خوف ہے، نہ ڈاکے کا اندر شیر ہے۔ اور میں تم سے جو کہتا ہوں کہ جہاں تمہارا مال ہو گا وہیں تمہارا دل بھی ہو گا"۔ اس ضمن میں حضرت عائشہ رض کا ایک واقعہ بھی بڑا عجیب اور پیارا ہے، ان کے یہاں ایک بکری ذبح ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشہ بت مرغوب تھا تو سیدہ صدیقہؓ نے ایک دستی بچا کر رکھ لی اور باقی سارا گوشہ غرباء و مساکین میں تقسیم کر دیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپؐ نے دریافت فرمایا: مَا بَيْقَنَ مِنْهَا؟ یعنی "اس بکری میں سے کیا بچا؟"۔ حضرت عائشہ صدیقہؓ نے عرض کیا: مَا بَيْقَنَ مِنْهَا إِلَّا كَيْفَهَا یعنی "اس میں سے کچھ نہیں بچا سوائے ایک دستی کے"۔ اس پر حضورؐ نے ارشاد فرمایا: بَيْقَيْتُ كُلُّهَا إِلَّا كَيْفَهَا یعنی "پوری بکری فوج گئی سوائے اس دستی کے"۔ یعنی اس دستی کو تو ہم کھالیں گے اور جو کھالیا گیا وہ تو خرچ ہو گیا، البتہ جو اللہ کی راہ میں دے دیا گیا، وہ ہاتھی رہنے والا ہے، وہ اصل بچت ہے۔ لہذا یہاں بالآخرت کے نتیجے میں انسان کے نظر، نظر میں یہ تبدیلی آئی چاہئے کہ جو کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا ہے وہ حقیقتی

مکنی انجمن خدمت القرآن لاہور

کے قیام کا مقصد

طبع ایمان — اور — سرخشم پہ لقین

قرآن حکیم

کے علم و حکمت کی

و سیع پیانے — اور — اعلیٰ علمی سطح

پر تشریف و اشاعت

تاکہ امت ملک کے فیغم عناصر میں تجدید ایمان کی ایک عمومی تحریک بپڑ جائے
اور اس طرح

اسلام کی نشأۃ ثانیہ — اور — غلبہ دینِ حق کے دورانی
کی راہ ہمار ہو سکے

وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ